


# اللهم پر 40 اعترافات کے عقلی و قلی جواب

پیغمبر و نبی کے سے مرثیہ امدادیں

ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نایک  
ترجمہ: پروفیسر محمد رضا / ذوالقرین



السلام  
پر

40 اعتراضات کے عقلی و تقلی جواب



ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نایک  
ترجمہ: پروفیسر محمد رضا / ذوالقرین



بِحَمْدِهِ تُبَشِّرُونَ دارالسَّلَامُ مُخْفَظُونَ

# دارالسلام

کتاب و نشرت کی اشاعت کا عالمی ادارہ



پوسٹ بکس: 22743 الراشدیہ 11416 سودی عرب فن: 00966 1 4043432-4033962  
فیکس: 4021659 E-mail: darussalam@awalnet.net.sa Website: www.dar-us-salam.com

① طریقہ کمر۔ الشیخ۔ الریاض فن: 00966 1 4614483 فیکس: 4644945

② شارع ابوابین۔ الملن۔ الریاض فن: 4735220 فیکس: 4735221

③ جده فن: 00966 2 6879254 فیکس: 6336270

④ الدُّبَيْر فن: 00966 3 8692900 فیکس: 8691551

001 713 7220419 فن: 00971 6 5632623 فیکس: 7220431

001 718 6255925 فن: 0044 20 85394885 فیکس: 6251511

فون: 00971 6 5632623 فیکس: 5632624

فون: 0044 20 85394885 فیکس: 020 85394889

## • 36 - لوزیال، سکیریٹس شاپ، لاہور

فون: 0092 42 7240024-7232400-7111023-7110081 فیکس: 7354072  
Website: www.darussalampk.com E-mail: info@darussalampk.com

② غرفی سریب، اردو بزار، لاہور فن: 07120054 فیکس: 7320703

③ موناکیٹ اقبال ٹاؤن۔ لاہور فن: 7846714

Z-110,111 (D.C.H.S) میں طارق روڈ (بالتعلیم فی پورٹ شاپنگ مال) کراچی

فون: 0092-21-4393936 فیکس: 4393937

Email: darussalamkhi@darussalampk.com

F-8، اسلام آباد فن: 051-2500237

یہ کتاب خریدئے اور دوسروں کو یاد ریکھئے

## مضامین

23	عرض ناشر
25	حروف اول
31	تعارف
33	مقدمہ

## حصہ اول

### اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے عام سوالات

سولہ  
1

### صرف اسلام ہی کی پیروی کیوں؟

39	اسلام اور ڈاکہ زنی کا تدارک
40	زکاۃ کا حکم
40	چوری کی سزا
40	عملی نفاذ
41	عورتوں کی عصمت دری کا سد باب
42	مردوں کے لیے جاب
42	عورتوں کے لیے جاب

- 43 حفاظتی حصار
- 44 ایک مثال سے وضاحت
- 44 عصمت دری کرنے والے کے لیے موت کی سزا
- 45 امریکہ میں عصمت دری کے روز افزون واقعات
- 46 اسلامی شریعت کی برکت
- 47 اسلام میں تمام مسائل کا عملی حل

سولہ  
2

کیا مسلمان کعبہ کو پوچھتے ہیں؟

- 49 قبلہ اتحاد و اتفاق کا ذریعہ ہے
- 49 کعبہ نقشہ عالم کے وسط میں ہے
- 49 طواف کعبہ
- 49 حضرت عمر بن الخطاب کی ایک حدیث میں عقیدہ توحید
- 50 کعبہ کی چھت پر اذان

سولہ  
3

کیا اسلام بزورِ شمشیر پھیلا؟

- 51 اسلام کا مطلب
- 51 طاقت کا استعمال
- 52 مؤرخ ڈی لیسی او لیری کی رائے

52	پین میں مسلمانوں کے 800 برس
53	تقریباً ذیلہ کروز عرب نسلی عیسائی ہیں
53	بھارت میں غیر مسلم
53	انڈونیشیا اور ملاٹشیا میں اسلام
53	افریقہ کا مشرقی ساحل
54	خامس کار لائل کی دلیل
54	دین میں کوئی جرنبیں
55	حکمت کی توار
55	نصف صدی میں عالمی مذاہب کے پیروکاروں میں اضافہ
55	امریکہ اور یورپ میں روزافزوں مذہب اسلام ہے
56	ڈاکٹر جوزف آدم پیٹرسن کا اعلانِ حقیقت

محلہ  
4

## مسلمان بنیاد پرست اور دہشت گرد ہیں؟

57	بنیاد پرست کی تعریف
58	تمام بنیاد پرست ایک جیسے نہیں
58	مجھے بنیاد پرست ہونے پر فخر ہے
59	بنیاد پرست کا لغوی مطلب
60	ہر مسلمان کو ”دہشت گرد“ ہونا چاہیے
60	دہشت گرد یا محبتِ وطن کون؟
61	اسلام کا مطلب سلامتی ہے

## موت کے بعد زندگی کیوں؟

- آخرت کا عقیدہ عقلی بنیاد پر 62
- امن اور انسانی القدار کا تصور 63
- لئے والے کے لیے مشکلات 63
- کوئی آپ کو بھی نوٹ سکتا ہے 63
- پولیس تھیں گرفتار کر سکتی ہے 64
- پیسہ کمانے کا آسان طریقہ 64
- انسانیت کے منافی فل 64
- خود غرضی سے لطف رہ جاتی؟ 64
- ڈاکر زندگی ہبھ حال بُرا کام ہے 65
- مسلمان کا مجرم کو قائل کرنا 65
- مجرم بھی انصاف چاہتا ہے 65
- سب سے طاقتور اور عادل 66
- اللہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ 66
- بے انصاف لوگوں کو سزا ملنی چاہیے 66
- عاقبت کے لیے آزمائش 67
- یوم حساب کو آخری انصاف 67
- ہٹلر کو سزا کیونکرے؟ 68
- ہٹلر کے لیے دوزخ کی سزا 68

سریں  
6

## ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کس لیے؟

- 70 کشیر از واجی مختلف مذاہب میں
- 72 قرآن محدود تعداد میں عورتوں سے شادی کی اجازت دیتا ہے
- 74 عورتوں کی اوسط عمر
- 74 بھارت میں نسوانی جنین اور لڑکیوں کا قتل
- 74 عالمی سطح پر عورتوں کی آبادی مردوں کی نسبت زیادہ ہے
- 75 ہر مرد کو صرف ایک شادی تک محدود رکھنا ناقابل عمل ہے

سریں  
7

## ایک سے زیادہ شوہروں کی ممانعت کیوں؟

سریں  
8

## کیا حجاب عورت کا استعمال نہیں؟

- زمانہ قدیم میں عورت کی حیثیت
- 80 بالکی تہذیب
- 80 یونانی تہذیب
- 81 روی تہذیب

81	■ مصری تہذیب
81	■ اسلام سے پہلے عرب کی تہذیب
81	■ اسلام نے عورت کو مساوی درجہ دیا
81	■ مردوں کا حجاب
82	■ عورتوں کا حجاب
83	■ حجاب کا معیار
84	■ حجاب میں اخلاق اور شخصی طرزِ عمل بھی شامل ہیں
84	■ حفاظتی حصار
85	■ مغرب میں عورت کا استحصال
85	■ امریکہ میں ریپ
86	■ اسلامی شریعت کا نفاذ

سیرہ  
9

## مرد اور عورت کی گواہی میں مساوات کیوں نہیں؟

88	■ مالی لین دین میں عورت کی گواہی
90	■ قتل کے مقدمات میں نسوائی گواہی
91	■ حضرت عائشہؓ کی گواہی
91	■ بعض معاملات میں عورتوں ہی کی گواہی کو ترجیح حاصل ہے

سیرہ  
10

## اسلام کا نظام و راثت غیر منصفانہ کیوں؟

- رشتہ داروں کا اور اشت میں مخصوص حصہ 93
- عورت کا حصہ برابر بلکہ ”دو گنا“ بھی ہو سکتا ہے 96
- مردوں کی نسبت خواتین کا حصہ نصف کب ہے؟ 96
- مرد کا حصہ دو گنا کیوں؟ 97

سولہ  
11

## شراب کی ممانعت میں کیا حکمت ہے؟

- قرآن میں شراب کی ممانعت 98
- باہمیں میں شراب کی ممانعت 99
- شراب بدی کے خلاف مداعی نظام کو م uphol کرتی ہے 99
- شراب خوری اور کبیرہ گناہوں کا رنگا 100
- کبھی کبھار شراب نوشی 100
- چھٹپتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی 101
- حدیث میں شراب کی ممانعت 101
- شراب سے لاحق ہونے والی بیماریاں 102
- شراب نوشی ایک بیماری ہے 104
- شراب نوشی شیطان کا ہتھکنڈا ہے 105

سولہ  
12

## سورہ کا گوشت حرام کیوں ہے؟

- قرآن میں سورہ کے گوشت کی ممانعت 106

- باہل میں سور کے گوشت کی ممانعت 107
- سور کا گوشت 70 بیماریوں کا سبب بنتا ہے 107
- سور کا گوشت چربی پیدا کرتا ہے 108
- زمین کا غلیظ ترین جانور 108
- سور بے شرم جانور ہے 109

سولہ  
13

### اسلام میں گوشت خوری کی اجازت کیوں؟

- مسلمان خالص سبزی خور بھی ہو سکتا ہے 110
- گوشت خوری کی اجازت 111
- گوشت غذائیت اور پروٹین سے بھرپور ہے 111
- انسانی دانت ہمہ خور ہیں 112
- انسان کا نظام انہضام 112
- ہندوؤں کی مذہبی کتب میں گوشت خوری کی اجازت 112
- ہندو دوسرے مذاہب سے متاثر ہوئے 114
- پودے بھی زندگی رکھتے ہیں 114
- پودے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں 115
- حواس کا قتل 116
- مویشیوں کی زیادہ تعداد 116

سولہ  
14

### اسلام میں ذبح کرنے کا طریقہ ظالمانہ ہے؟

- 117 ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ
- 118 خون میں جراشیم اور بیکٹیریا
- 118 ذیجہ گوشت کی تازگی
- 118 جانور کو تکلیف نہیں ہوتی

سولہ  
15

## گوشت مسلمانوں کو مقدس بنتا ہے؟

- 120 درندوں کا گوشت حرام ہونے کی احادیث

سولہ  
16

## مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟

- 122 فرقہ بندی اللہ کی نافرمانی ہے
- 122 ہمارے نبی ﷺ مسلمان تھے
- 123 قرآن کا حکم
- 124 ائمہ اسلام کا احترام

سولہ  
17

## اسلام اور مسلمانوں کے عمل میں واضح فرق کیوں؟

- 128 ہر معاشرے میں ناکارہ لوگ ہوتے ہیں
- 128 مسلم معاشرے کی مجموعی حالت بہتر ہے
- 128 کار کوڈ رائیور سے نہ پر کیہے

129

■ اسلام کو محمد ﷺ کی ذات گرامی سے پرکھیں



130

■ ممنوعہ علاقہ

131

■ دین اپالیسی



132

کیا غیر مسلموں کو کافر کہنا گالی ہے؟

■ ”کافر“ کی اصطلاح گالی نہیں

## حصہ دوم

اسلام سے قدرے واقف غیر مسلموں کے مخصوص سوالات



کیا موجودہ قرآن اصلی ہے؟

135

■ نبوی سرپرستی میں تدوین قرآن

136

■ ترتیب قرآن و حی الہی کے مطابق ہے

137

■ کتابت قرآن کی تکمیل عہد نبوی میں ہوئی

137

■ نقل قرآن

اعراب قرآن

138

حافظت قرآن

139

سولہ  
21

اللہ ایک ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں؟

140

جمع کے صیغے کی دو اقسام

سولہ  
22

کیا تفسیخ آیات غلطی کی اصلاح ہے؟

143

قرآن کا چینچ

146

نشیات کی بتدریج ممانعت

147

قرآن مجید میں تضاد ہیں

سولہ  
23

کیا حروفِ مقطعات بے فائدہ ہیں؟

150

حروفِ مقطعات

152

حروفِ مقطعات کے معنی

153

حروفِ مقطعات کی بہترین تعبیر

155

قرآن مجید کا معجماتی وصف

## کیا زمین چپٹی اور ہموار ہے؟

- 158 قرآن کے مطابق زمین چپٹی نہیں
- 159 کشادہ فرش ارضی

## کیا قرآن، بابل کی نقل ہے؟

- 160 روی لواہر کی حقیقت
- 161 ورقہ بن نوفل کا کروار
- 162 اہل کتاب سے مذہبی بحثیں
- 162 پیغمبر ﷺ کا عجمیوں سے قرآن مجید سیکھنا
- 163 مانعہ قرآن
- 164 محمد ﷺ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے
- 165 آسمی بنی علیؑ کی آمد کی پیش گوئی بابل میں
- 165 بابل کا عربی مسودہ
- 166 قرآن اور بابل میں یکسانیت
- 167 تمام آسمانی کتابوں پر ایمان
- 169 قرآن اور بابل کے درمیان سائنسی بندید پر مقابل
- 169 بابل اور کائنات کی تخلیق
- 170 بابل اور سورج کی تخلیق

171	سورج روشنی خارج کرتا ہے چاند نہیں
171	تخلیق باتات اور سورج
172	تخلیق آدم اور بابل
172	طوفان نوح اور بابل
173	مویی علیہ السلام اور فرعون
175	قرآن اللہ کی کتاب

مسئلہ  
26

### کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟

178	شیطان کے متعلق غلط تصور
179	کفار کو شیطان نے پٹ پڑھائی

مسئلہ  
27

### اللہ معاف کرنے والا ہے یا منتقم مزاج؟

180	اللہ تعالیٰ کی معافی
181	اللہ تعالیٰ کی پکڑ
181	اللہ تعالیٰ کا اعدل
182	عدل کی ایک مثال
183	دنیا کی زندگی آخرت کے لیے آزمائش ہے
183	جزا اوسرا کی حکمتِ رباني

■ معافی صرف تائین کے لیے

183

سؤال  
28

کیا اثراسونوگرافی قرآنی آیات کی نفی کرتی ہے؟

■ علم غیب صرف اللہ جانتا ہے

■ اثراسونوگرافی سے جس کا تعین

■ قرآن اور جنین کی جنس

سؤال  
29

کیا قرآن میں تضاد ہے؟

■ ”یوم“ کے معنی

■ 50 ہزار اور ایک ہزار سال کی حقیقت

سؤال  
30

تخلیق انسان کس سے؟

■ پانی سے انسان کی تخلیق

■ تخلیق انسانی، پانی یا مٹی سے؟

سؤال  
31

افلاک وارض کی تخلیق چھ یا آٹھ روز میں؟

- 196 ..... (ثُمَّ) سے مراد ”مزید برآں“  
 ■ 197 ..... آسمان اور زمین کی بیک وقت تخلیق

سورة  
32

### کیا مشرق و مغرب دودو ہیں؟

- 199 ..... مشرق و مغرب کی انتہا  
 ■ 201 ..... تمام نقاط و مقامات کا مالک اللہ ہے

سورة  
33

### کیا اسلام تشدداً و رخونریزی کی دعوت دیتا ہے؟

- 202 ..... آیت جس کا غلط حوالہ دیا جاتا ہے  
 ■ 203 ..... آیت کا سیاق و سبق  
 ■ 203 ..... عہدِ نو کی ایک مثال  
 ■ 204 ..... حالتِ جنگ کا حکم  
 ■ 204 ..... ارون شوری کی فریب کاری  
 ■ 205 ..... قرآن سے جواب

سورة  
34

### کیا قرآنی احکام و راثت میں ریاضی کی غلطی ہے؟

- 208 ..... اسلام کا قانون و راثت

## کفار کے دلوں پر مہر لگنے کے بعد وہ قصور وار کیوں؟

- ایک مثال سے وضاحت 212

## فہم و ادراک کا مرکز دل یا دماغ؟

- قلب کا مفہوم 214
- فہم و ادراک کا مرکز 214
- انگریزی زبان کی مثالیں 214
- قریب زدہ یا چاند کا مارا ہوا 214
- ایک منہوس ستارہ 215
- تین سڑکوں کا سعّم 215
- طلوع آفتاب اور غروب آفتاب 215
- محبت اور جذبات کا مرکز 215

## جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کے لیے کیا؟

- حور کا مطلب 218
- عورتوں کے لیے خصوصی انعام 219

## ابلیس: فرشتہ یا جن؟

222 تغلیب کا کلیہ

223 ارادہ و اختیار جنوں کو ملا، فرشتوں کو نہیں

## کیا مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں؟

225 بیٹے کا مطلب اولاد ہے

225 کیا مسح علیہ السلام کے دو باپ تھے؟

## کیا ”روح اللہ“ سے الوہیت مسح کشید کی جاسکتی ہے؟

227 انبیاء کے القاب

228 مسح علیہ السلام کا ذکر بطور رُوح مِنَ اللَّهِ

229 اللہ کی روح ہر انسان میں پھونکی گئی ہے

## کیا مسح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟

231 مسح علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے



اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا

---

## عرضِ ناشر

دارالسلام کتاب و سنت کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے جو کم و بیش دو عشروں سے قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ اور سیرت و سوانح کے موضوعات پر آٹھ سو سے زیادہ کتابیں دنیا کی بارہ اہم زبانوں میں شائع کرچکا ہے۔ اس کا اشاعیٰ نیٹ ورک تین برا عظموں میں پھیلا ہوا ہے اور دارالسلام کی مطبوعات صحت، سند اور خوبصورت پیشکش اور طباعت کے اعلیٰ معیار کی بناء پر ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں اشاعت دین کے سلسلے میں جدید فنی ذرائع کا بھرپور استعمال طباعت و اشاعت کی دنیا میں اسے ایک ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ ان خدمات کی بجا آوری پر دارالسلام اور اس کے کارکنان اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔

ذلکَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (المائدۃ: 54/5)

علوم دین کی اشاعت کے سلسلے میں دارالسلام نے 11 کتابوں پر مشتمل ”تلاشِ حق سیریز“ شائع کی ہے۔ یہ کتب غیر مسلموں اور سیکولر افراد اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لیے شائع کی گئی ہیں جو مغرب سے شدید متاثر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 11 کتب پر مشتمل ”راہِ حق سیریز“ بھی شائع کی گئی ہے جس سے اسلام کے عقائد و عبادات اور مبادیات کا گہرائی سے مطالعہ کرنے والے نو مسلم اور عام مسلمان استفادہ کر سکتے ہیں۔ زیرنظر کتاب ”اسلام پر 40 اعتراضات کے عقلی و نقلی جواب“ ”تلاشِ حق سیریز“ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ دراصل مہمی (بھارت) کے مبلغ اسلام ڈاکٹر عبدالکریم نایک کے دعویٰ خطبات "Spreading the Truth of Islam" سے ماخوذ سوالات اور ان کے جوابات ہیں جو انگریزی کے (حقانیتِ اسلام کی نشر و اشاعت) سے ماخوذ سوالات اور ان کے جوابات ہیں جو انگریزی کے

علم دوست استاد پروفیسر محمد رضا نے اثرنیٹ سے نکالے۔ پہلا حصہ اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے عام سوالات پر مشتمل ہے۔ ان 19 سوالات اور ان کے جوابات کو پروفیسر محمد رضا نے خود انگریزی سے اردو میں منتقل کیا۔ دوسرا حصے میں اسلام سے قدرے واقف غیر مسلموں کے مخصوص 22 سوالات اور ان کے جوابات شامل ہیں جن کا ترجمہ جناب ذوالقرنین مدیر معاون روزنامہ ”پاکستان“ نے کیا ہے۔

اس کتاب میں اگرچہ اسلام کے متعلق غیر مسلموں کے 41 سوالات اور ان کے جواب شامل کیے گئے ہیں مگر عدد 40 کی روایتی معنویت کی بنا پر کتاب کا عنوان ”اسلام پر 40 اعتراضات کے عقلی و نقلي جواب“ رکھا گیا ہے۔ ترجمہ شدہ مسودے کی تصحیح، تخریج اور پروف خوانی کی ذمہ داریاں جناب محسن فارانی، جناب احمد کامران، حافظ اقبال صدیق، مولانا محمد عثمان مسیب اور حافظ محمد فاروق نے مل کر انجام دیں۔ آخرالذکر دوسرا تھیوں نے کتاب کے فنی مرامل بھی مکمل کروائے۔ کمپوزنگ اور ڈیزائنگ کے فرائض جناب زاہد سعید چودھری، ہارون الرشید اور ابو مصعب نے ادا کیے ہیں۔ میں ان سب کا اور عزیز زم حافظ عبدالغظیم اسد کا خاص طور پر ممنون ہوں جن کی گمراہی میں ”ٹلاش حق سیریز“ اور ”راہ حق سیریز“ کے تبلیغی و اشاعتی سلسلے پاپیٹیکیل کو پہنچے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان سب کو جزاۓ خیر عطا فرمائے اور ہماری اس ادنیٰ کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین!

خادمِ کتاب و سنت

عبدالمالك مجاهد

مدیر: دارالسلام، الریاض۔ لاہور

جاذی الآخرہ 1427ھ / جولائی 2006ء

برائے چربانی یہ کتاب بـ خرید کر دوسروں تک نہ مدد سے نہ راہ  
بعداً میں پہنچاؤں۔

## حرف اول

اسلام دین فطرت ہے جو اگرچہ ابتدائے آفریش سے چلا آ رہا ہے مگر ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دینِ حنف کے پیر و کاروں کو خاص طور پر "مسلمین" کا نام دے کر اسے "اسلام" یعنی تسلیم و اطاعت کا دین قرار دیا، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ کے دین اسلام کا اثبات ان الفاظ میں کیا گیا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ عَنْدَ اللَّهِ إِلَاسْلَامُ  
”بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔“<sup>①</sup>

یوں اللہ کا دین اسلام تو ایک ہی تھا اور ایک ہی ہے مگر مختلف زمانوں میں اس کی بگڑی ہوئی شکلیں یہودیت، میسیحیت وغیرہ کے ناموں سے بنی نوع انسان میں فروغ پاتی رہیں حتیٰ کہ دینِ اسلام سے ان کا دور کا بھی تعلق نہ رہا۔ آخر کار خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کی بعثت ہوئی، آپ نے اسلام کی تجدید کی اور جزیرہ نماۓ عرب میں توحید خالص پر بنی اس دین کا پرچار کر کے اسے رہتی دنیا تک بیمار انسانیت کے لیے نجٹھے شفابنا دیا۔

اسلام وحدانیت کا علمبردار اور واحد سجاد دین ہے۔ یہ اسلام کی سچائی اور وحدانیت ہی تھی کہ تہیں برس کی مختصر مدت میں جزیرہ نماۓ عرب کا گوشہ گوشہ اسلام کے نورِ سرمدی سے جگکا اٹھا اور پہلی صدی ہجری کے اختتام پر مشرق میں سمرقند و بخارا اور کابل و ملتان سے لے کر مغرب میں قرطبه اور طیبلہ تک اسلام کے پھریے لہرا رہے تھے حتیٰ کہ دجلہ سے لے کر ساحلِ اوقیانوس

تک کے ممالک اسلامی ثقافت میں اس طرح ڈھل گئے کہ قرآن کی عربی زبان پورے خطے کی زبان بن گئی اور ان کی متقامی زبانیں اس طرح نیا منیا ہو گئیں جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ آج آرامی، سریانی، قبطی اور بربری زبانیں کہیں بولی نہیں جاتیں اور یہ محض قدیم تاریخ کے اوراق کی زینت بنی نظر آتی ہیں۔ یہ اسلام کی سچائی اور آفاقیت کی بین دلیل ہے!

اسلام حکمت و تدبیر، خیر و فلاح اور تبلیغ و تعلیم کا دین ہے۔ قرآن مجید نے اسلام کے پیروکاروں کو خیرِ اُمّۃٰ قرار دے کر انھیں اجتماعی اور انفرادی حیثیت میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے مکلف ٹھہرایا، چنانچہ مسلمان جب تک اخلاص و ایمان کے ساتھ یہ فریضہ سرانجام دیتے رہے، وہ دنیا میں سر بلند رہے۔ دنیا ان کا پانی بھرتی رہی اور اسلامی تہذیب تمام تہذیبوں پر غالب رہی۔ مشرقی، وسطیٰ اور مغربی افریقہ، بر صغیر ہندوپاک، انکا، مالدیپ، جنوب مشرقی ایشیا اور جزائر شرقی ہند کے باشندے مبلغین اسلام کی تبلیغ و تلقین اور ان کے اسلامی کردار کی برکات سے حلق بگوش اسلام ہوتے چلے گئے۔ اس دوران میں چنگیز خاں کے تاتاری وحشیوں نے عالم اسلام پر یلغار کر دی۔ انہوں نے مختلف شہروں میں خون کی ندیاں بہائیں اور جگہ جگہ گلہ مینار (کھوپڑیوں کے مینار) تعمیر کیے۔ سمرقند، بخارا، مرو، خوارزم، ہرات، نیشاپور، رے اور بغداد جیسے اسلامی مرکز تباہ و بر باد کر دیے گئے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے میں چشم فلک نے دیکھا کہ تاتاری شہزادے اور حکمران یکے بعد دیگرے اسلام کے سایہ عاطفت میں پناہ لینے لگے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ پانچ صدیوں سے تو مفتوح اقوام اسلام قبول کرتی آ رہی تھیں مگر اب تاتاری فاتحین قبول اسلام کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ گویا اسلام نے فاتحین کے دلوں کو بھی فتح کر لیا تھا۔

چنگیز خان کے چار بیٹے تھے: جو جی، چختائی، او غنائی اور تویی۔ تاتاری سلطنت ان چاروں کی اولاد میں تقسیم ہوئی۔ جو جی کے دوسرے بیٹے بر کہ خان کے قبول اسلام کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں مشرقی روس کا آلتون اردو (سنہری خانوادہ) مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ خراسان و ایران

میں برسر اقتدار ہلاکو خان ابن تولی کی اولاد میں سے تکودار سلطان احمد خاں (شہید)، کنجات خان (شہید) اور سلطان محمود غازی خان اسلام کی نعمت سے بہرہ ور ہوئے۔ اوہر ترکستان میں چغتائی کے پر پوتے مبارک شاہ نے اسلام قبول کیا جبکہ اس سے پہلے اس کی والدہ اور حکمران ملکہ اور قینہ (بیوہ قراہلا کو) مسلمان ہو چکی تھی۔ مبارک شاہ کے بعد اس کے عمزاد اور جانشین بُراق خان اور پھر تر ماشیریں علاء الدین اور تغلق تیمور خان نے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ تغلق تیمور کے مشرف بہ اسلام ہونے کا واقعہ نہایت حیرت انگیز ہے جو مختصر کچھ یوں ہے:

شہزادہ تغلق تیمور شکاری مہم کے دوران میں کہیں خیس زن تھا کہ اذان کی آواز سے اس کی نیزد اچاٹ ہو گئی۔ اس کے حکم پر سپاہی گئے اور اذان دینے والے مسلمان بزرگ شرف الدین کو پکڑ لائے۔ تغلق تیمور نے انھیں دیکھتے ہی اپنے قریب بیٹھے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا: ”تم اچھے ہو یا میرا یہ لٹتا اچھا ہے؟“ شیخ شرف الدین نے کہا: اس سوال کا جواب اس وقت دینا ممکن نہیں۔ شہزادہ ان کے طرزِ لفظ سے متاثر ہوا اور انھیں جانے دیا۔ اس کے بہت برس بعد جب تغلق تیمور تخت نشین ہو چکا تھا، شیخ شرف الدین کا آخری وقت آن پہنچا اور انھوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میری مدد فین سے فارغ ہو کر تغلق تیمور کے پاس جانا اور اسے یہ پیغام دینا کہ شرف الدین کا خاتمه ایمان پر ہوا ہے، لہذا وہ اس کے کتے سے بہتر ہے۔ صاحبزادے نے دارالحکومت جا کر بڑی مشکل سے تغلق تیمور خان کے دربار میں رسائی پائی اور اسے اپنے والد کا پیغام دیا تو اس کے دل کی کایا پلٹ گئی اور ایمانی حلاوت سے شاد کام ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔

محمود غازیان (قازان) کے قبول اسلام کے بارے میں حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ (متوفی 694ھ) البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں:

”اس سال چنگیز خاں کا پرپوتا قازان تاتاریوں کا بادشاہ ہوا اور امیر توزون رضی اللہ عنہ کے ہاتھ

پر علانية مشرف بہ اسلام ہوا اور تاتاری گل یا پیشتر اسلام میں داخل ہو گئے۔ جس روز با دشانے اسلام قبول کیا، اس روز سونا چاندی اور موتی لوگوں کے سروں پر نچھا درکیے گئے، اس نے اپنا نام محمود رکھا اور جمعہ اور خطبے میں شرکت کی۔ بہت سے بت خانے گردیدے اور ان پر جزیہ مقرر کیا۔ بغداد اور دوسرے شہروں اور ملکوں کی غصب کی ہوئی چیزیں واپس کی گئیں اور انصاف کیا گیا۔ لوگوں نے تاتاریوں کے ہاتھوں میں تسبیحیں دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا شکر ادا کیا۔“ (انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی۔ صفحہ: 178)

تاتاری فاتحین کے داخلِ اسلام ہونے کے اس انقلاب عظیم کی طرف علامہ اقبال نے ”جواب شکوه“ میں یوں اشارہ کیا ہے۔

ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے

پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

کم و بیش گیارہ سو سال تک اسلام کی فاتحانہ پیشرفت جاری رہی، پھر مسلمانوں کے کردار اور عمل میں تیزی سے ضعف آنے لگا اور انھوں نے اسلام کی تبلیغ کے دینی فریضے سے مجرمانہ کوتا ہی برتنی جس کے نتیجے میں دنیا کی سیادت ان سے چھن گئی۔ یورپ کی مسیحی اقوام بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان پر پل پڑیں اور ایک ڈیرہ صدی کے اندر عالم اسلام کے تمام ممالک یکے بعد دیگرے یورپ کے استعماری شکنجه میں جکڑے گئے حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ بھی کمزور ہوتے ہوتے 1924ء میں خود ترکوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ان تیرہ و تاریخیں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت عمل میں آئی اور یورپ کی استعماری اقوام یکے بعد دیگرے دو خوفناک عالمی جنگوں میں اُلچھ گئیں۔ ان دونوں جنگوں میں کروڑوں انسان مارے گئے اور یورپ، ایشیا اور افریقہ میں ایسی تباہی پھی جس کی گزشتہ انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، تاہم ان عالمی جنگوں کا ثابت نتیجہ یہ نکلا کہ استعماری طاقتوں کی توانائی چڑھ گئی اور ان کے لیے حکوم ممالک پر اپنا استعماری قبضہ تادری برقرار رکھنا ناممکن

ہو گیا۔ اگست 1945ء میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور اس کے بعد دو اڑھائی عشروں میں ملک اقوام یکے بعد دیگرے فرنگی استعمار کی زنجیریں توڑ کر آزادی سے بہرہ ور ہوتی چلی گئیں اور عروں آزادی سے ہمکنار ہونے والے ان ممالک میں نوے فیصد مسلم ممالک ہی ہیں۔

یورپی غلامی کے شکنخ سے آزادی پانے کے بعد اگرچہ مسلمان بدستور قکری و عملی اضحکال سے دو چار ہیں اور کفر و باطل کے علمبردار جدید ترین اسلحے اور ذراائع ابلاغ کے شیطانی ہتھکنڈوں سے لیس ہو کر اہل اسلام اور اسلامی تہذیب پر حملہ آور ہیں مگر ذراائع آمد و رفت میں ترقی و سرعت اور ذراائع ابلاغ کی تیزی واشر آفرینی کا ایک ثابت نتیجہ یہ نکلا ہے کہ داعیانِ اسلام کا کام کہیں آسان ہو گیا ہے اور وہ جدید ذراائع ابلاغ استعمال کرتے ہوئے ان غیر مسلموں تک اسلام کا روح پرور پیغام پہنچانے میں بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں جن کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرنا پہلے ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ میں گفر کی ہولناک تاریکیوں میں ڈوبتے ابھرتے لوگوں تک جیسے ہی اسلام کا نشاط انگریز پیغام پہنچتا ہے تو وہ مشرف بہ اسلام ہونے میں ایک لمحے کی دری نہیں لگاتے۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ فرانس کے مشہور زمانہ فٹ بال کے کوچ فلپ ٹراڈزیز اور ان کی اہلیہ ڈوینک نے مرکاش کے دارالحکومت رباط میں قبول اسلام کا اعلان کیا ہے۔ موصوف کا اسلامی نام اب عمر ہے اور ان کی اہلیہ اب اینہ کہلاتی ہیں۔ وہ مرکاش میں مقیم ہیں، الہذا 27 مارچ 2006ء کو رباط میں ان کے قبول اسلام کا جشن منایا گیا ہے۔

عہدروں کے مسلم مبلغین میں سے برصغیر کے ڈاکٹر حمید اللہ اور ڈر بن (جنوبی افریقہ) کے شیخ احمد دیدات نے مغرب اور افریقہ میں تبلیغ اسلام کے حوالے سے بہت نام پیدا کیا۔ وہ چند سال پہلے یکے بعد دیگرے اپنے رب سے جا ملے ہیں۔ ان دونوں داعیانِ اسلام کی رحلت سے پیدا شدہ خلااب بڑی حد تک ممبئی (بھارت) سے تعلق رکھنے والے مبلغ اسلام ڈاکٹر ڈاکٹر عبدالکریم نائیک، جمال بداؤی اور ڈاکٹر بلاں فلپ پورا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ڈاکٹر نائیک ان میں سرفہrst

ہیں۔ وہ ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اسلام کی حقانیت کی اشاعت کر رہے ہیں اور اس کے لیے سیبلائسٹ ہی وی چینل، کیبل ہی وی اور انٹرنیٹ سمیت تمام ذرائع ابلاغ بروئے کار لار ہے ہیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، دینی اور دنیاوی علوم ان کو از بر ہیں، حافظہ بلا کا ہے اور انٹرنیٹ کی زبان انگریزی پر انھیں کامل عبور حاصل ہے۔ یہی نہیں انھیں قرآن مجید کی آیات، یہود و نصاریٰ کی کتاب بابل اور ہندوؤں کی گیتا کے حوالے ابواب اور فقروں کے نمبروں سمیت اس طرح یاد ہیں جس طرح کبھی بچوں کو پہاڑے یاد ہوتے تھے۔ ان کی تقریر اور گفتگو عقل و دلنش اور سائنسی حقائق سے مملو ہوتی ہے۔ وہ دھان پان سے انسان ہیں اور مغربی طرز کا سوٹ پہنچتے ہیں مگر جب اردو اور انگریزی میں اسلام اور تقابل ادیان پر بولتے ہیں تو الفاظ و معانی کا دھارا بننے لگتا ہے اور مفہوم و مطالب سُننے والوں کے ذہنوں میں اترتے چلے جاتے ہیں۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

ڈاکٹر ذاکر نائیک کے خطبات مختلف ہی وی چینلوں اور کیسٹوں کے ذریعے تبلیغ اسلام کا بے مثال کام کر رہے ہیں۔ ان کے تبلیغی خطبات Spreading the Truth of Islam کے عنوان سے <http://www.irf.net> پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

ڈاکٹر ذاکر نائیک کی ویب سائٹ سے ماخوذ ”اسلام پر 40 اعتراضات کے عقلی و نقلي جواب“ کا مطالعہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ اصحاب کے لیے اشد ضروری ہے اور غیر مسلم سچائی کے متلاشی بن کر ان کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً انھیں روشنی ملے گی۔ اہل خیر حضرات غیر مسلم آبادیوں میں انھیں بڑی تعداد میں تقسیم کریں گے تو اللہ کے ہاں بالیقین اجر کے مستحق ٹھہریں گے!

محسن فارانی - لاہور

14 جمادی الآخرہ 1427ھ / 11 جولائی 2006ء

## ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائیک

### ایک تعارف

ڈاکٹر ذاکر نائیک پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ وہ 18 اکتوبر 1965ء کو ممبئی (سابق بمبئی) میں پیدا ہوئے۔ وہ سینٹ پیٹرز ہائی سکول اور کشن چند چیلارام کالج (مبھی) کے فارغ التحصیل ہیں۔ انہوں نے ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج میں پڑھتے ہوئے یونیورسٹی آف ممبئی سے ایم بی بی الیس کی سند حاصل کی اور نارتھ ہسپتال (مبھی) میں خدمات انجام دیں۔ وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن (IRF) کے صدر، آئی آر ایف ایجوکیشنل ٹرست (مبھی) کے چیئرمین اور اسلامک ڈائی مینیشنز (مبھی) کے صدر ہیں۔ گزشتہ دس برسوں سے وہ بھارت کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، سعودی عرب، متحده عرب امارات، ہانگ کانگ، کویت، قطر، بحرین، جنوبی افریقہ، ماریش، آسٹریلیا، ملائیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، گائیانا (جنوبی امریکہ) اور دیگر ممالک میں 1000 کے لگ بھگ پبلک لیکچرز دے چکے ہیں جن کے بعد سوال و جواب کی نشست خاصے کی چیز ہوتی ہے۔

محترم ڈاکر نائیک نے دوسرے مذاہب کی نمایاں شخصیات کے ساتھ کئی سپوزیم اور مباحثوں میں شرکت کر کے اپنی علمیت کی دھاک بٹھائی ہے۔ کیم اپریل 2001ء کو وہ شکا گو (امریکہ) میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ہمراہ مناظرے میں شریک ہوئے جس کا عنوان تھا:

The Quran and the Bible in the Light of Science.

اس مناظرے میں ڈاکٹر نائیک نے ڈاکٹر کیمبل کو شکست فاش دی۔ ان کے انھی اوصاف کی بنا پر شیخ احمد دیدات مرحوم نے 1994ء میں انھیں دیدات پلس (Deedat Plus) یعنی

”دیدات کے کام کو آگے بڑھانے والا“، قرار دیا تھا۔ مئی 2000ء میں دیدات مرحوم نے دعوت دین اور مطالعہ تقابل ادیان کے میدان میں ڈاکٹر نایک کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انھیں جوشیلڈ پیش کی، اس پر درج ہے: ”بیٹھ! آپ نے جو کام 4 برسوں میں کیا ہے اس کی تکمیل میں مجھے 40 سال لگے، الحمد للہ!“

**ڈاکٹر ذاکر نایک اسلام اور تقابل ادیان پر درج ذیل کتابوں کے مصنف ہیں:**

1- Replies to the Most Common Questions asked by Non-muslims.

(غیر مسلموں کی طرف سے پوچھے جانے والے بہت عام سوالوں کے جواب)

2- Quran and Modern Science- Compatible or Incompatible?

(قرآن اور جدید سائنس: ان میں مطابقت ہے یا عدم مطابقت؟)

3- Concept of God in Major Religions.

(بڑے مذاہب میں خدا کا تصور)

4- Islam and Terrorism

(اسلام اور دہشت گردی)

5- Women's Rights in Islam-Protected or Subjugated?

(اسلام میں خواتین کے حقوق: خواتین محفوظ ہیں یا مغلوب؟)

6- Al-Quran-Should it be read with Understanding?

(القرآن: کیا اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے؟)

7- Is the Quran God's Word?

(کیا قرآن اللہ کی وحی ہے؟)

ڈاکٹر ذاکر نایک دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں کئی عالمی ٹی وی چینلوں پر باقاعدگی سے وعظ و ارشاد فرماتے ہیں۔ انھیں ٹی وی اور ریڈیو ایکٹرو یو کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ ان کی تقاریر، مکالمات، مباحثات اور سپوزیم کی 100 سے زیادہ ویڈیو ٹیکسٹس، ویڈیو سی ڈیز اور آڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ ان کی تقاریر اور ان کے جوابات نہایت مدل، دلشیں اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے والے ہوتے ہیں۔

## مقدمہ

اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور تمام انسانوں کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے اور مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کا پیغام تمام بني نوع انسان تک پہنچائیں۔ لیکن افسوس! اکثر مسلمان اس فرض سے غافل ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود کہ اسلام ہمارے لیے بہترین طرز زندگی ہے، ہم میں سے اکثر ان لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے سے گھبراتے ہیں جن تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا۔

عربی لفظ ”دعوت“ کا مطلب ہے بلانا اور دعوت دینا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے اسلام کو پھیلانے کی جدوجہد کرنا۔ اور قرآن کریم کی روز سے دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور اس میں کوتا ہی کرنے والے ظالموں میں شمار ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَمُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ يَغْنِي عَمَّا  
تَمْلَئُونَ ﴾<sup>۱۶</sup>

”اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔“<sup>①</sup>

<sup>①</sup> البقرة: 140/2

دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مکالمہ اور بحث مباحثہ ناگزیر ہے۔ قرآن عظیم میں رب جلیل نے فرمایا:

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحَسَنٌ﴾

”اے نبی! لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے۔“<sup>①</sup>

ایک غیر مسلم تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ اسلام کے ثابت طرزِ عمل اور فطرت کے بارے میں بتایا جائے۔ اکثر غیر مسلم اسلام کی سچائی کے قائل نہیں ہوتے۔ دراصل ان کے دماغ کے کسی گوشے میں کئی ایسے سوالات موجود ہوتے ہیں جن کا اپنی جواب نہیں ملتا۔

وہ اسلام کے ثابت طرزِ عمل اور فطرت کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر سے متفق ہو سکتے ہیں مگر اگلے ہی سانس میں وہ کہیں گے: ”لیکن آپ تو وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، آپ وہی لوگ ہیں جو عورتوں کو پردوے کے پیچھے حکوم و مغلوب رکھتے ہیں، آپ بنیاد پرست ہیں۔“ وغیرہ وغیرہ۔

میں اپنے ملنے والے ان غیر مسلموں سے، جن کا علم محدود ہوتا ہے، یہ پوچھنے کو ترجیح دیتا ہوں کہ آپ اسلام میں کس چیز کو غلط محسوس کرتے ہیں۔ میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ کھل کر بات کریں اور انھیں قائل کرتا ہوں کہ میں اسلام کے متعلق تقدیسن سکتا ہوں۔

پچھلے چند برسوں میں دعوتِ دین کے تجربے کے دوران میں مجھے یہ احساس ہوا کہ انہیں بیس سوالات ایسے ہیں جو غیر مسلم عام طور پر اسلام کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ جب آپ

کسی غیر مسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اسلام میں کیا چیز غلط ہے تو وہ پانچ یا چھ سوال اٹھاتا ہے جو کم و بیش انھی سوالوں میں سے ہوتے ہیں۔

### دلیل سے بات کچھے

آپ دلیل سے اکثریت کو قائل کر سکتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں عام طور پر پوچھے جانے والے ان سوالات کا جواب عقل اور دلیل کے ذریعے سے دیا جاسکتا ہے اور غیر مسلموں کی اکثریت کو ان جوابات سے قائل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایک مسلمان ان جوابات کو حفظ کر لے یا ذہن میں رکھے تو، ان شاء اللہ، وہ غیر مسلموں کو اسلام کی سچائی کا قائل کر سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ کم از کم اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے منقی نظریات اور تصورات کو رد کر سکتا ہے یا ان کا ازالہ کر سکتا ہے۔ بس چند غیر مسلموں ہی کے پاس ان مدلل جوابات کے جوابی دلائل ہوتے ہیں جن کے لیے مزید معلومات کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

### میڈیا کا پھیلایا ہوا غلط تصور

اکثر غیر مسلموں کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ان کے دماغ میں مسلسل غلط معلومات ڈالی جاتی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کا کنٹرول زیادہ تر مغرب کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ بین الاقوامی سیٹلائزٹ ٹی وی چینل ہوں یا ریڈیو سٹیشن، اخبارات، میگزین اور کتابیں ہوں۔ زمانہ حال میں اٹریٹیٹ اطلاعات کا موثر ذریعہ بن چکا ہے۔ اگرچہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں لیکن اس میں بھی اسلام کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈہ موجود ہے۔ یقیناً مسلمان بھی اسے اسلام کا صحیح تصور اجاگرنے کے لیے استعمال

کر رہے ہیں لیکن اسلام کے بارے میں کیسے جانے والے منفی پروپیگنڈے کے مقابلے میں وہ کہیں پیچھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب اس سلسلے میں مسلمانوں کی کوششیں تیزتر ہوں گی۔

اسلام کے بارے میں بہت عام سوالات مختلف دوار میں مختلف رہے ہیں۔ فی زمانہ ان عام سوالوں کا مجموعہ موجودہ وقت اور حالات کے مطابق ہے۔ چند عشرے پہلے یہ سوالات مختلف تھے اور چند عشرے بعد بھی یقیناً مختلف ہوں گے۔ اس بات کا انحصار اس پر ہے کہ میڈیا میں اسلام کو کس حوالے اور کس اسلوب سے پیش کیا جاتا ہے۔

### اسلام کے مختلف اقطاب صورت دیبا بھر میں یکساں ہیں

میں دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف لوگوں سے ملا ہوں اور ہر جگہ مجھے اسلام کے بارے میں انھی عام سوالات کی یکسانیت ملی ہے، البتہ مقام، ماحول یا ثقافت کی نیزگیوں کے باعث ان سوالات میں کچھ اضافہ بھی ہوا، مثلاً امریکہ میں اضافی طور پر پوچھا جانے والا عام سوال یہ ہے:

”اسلام سود یعنی اور دینے سے کیوں منع کرتا ہے؟“

کچھ سوالات بھارتی غیر مسلموں کے بھی ہیں، مثال کے طور پر:

”مسلمان ایسی خوراک کیوں نہیں کھاتے جو صرف سبز یوں پر مشتمل ہو؟“

یہ سوال شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی نژاد لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور بھارتی باشندے دنیا کی آبادی کا 20 فیصد یا 1/5 حصہ ہیں، اس لیے ان کے سوالات بھی ان سوالوں میں شامل ہیں جو دنیا بھر کے غیر مسلم لوگ بالعموم پوچھتے رہتے ہیں۔

## اسلام کا مطالعہ کرنے والے غیر مسلموں کے مزید غلط تصورات

بہت سے غیر مسلموں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے مگر ان میں سے اکثر نے دراصل ان مخصوص کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جو اسلام کے مت指控 ناقدین نے لکھی ہیں۔ یہ غیر مسلم اپنے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں بائیس باکیس مزید غلط نظریات رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں متعدد تضادات ہیں اور قرآن کی تعلیمات غیر سانسی ہیں وغیرہ وغیرہ، لہذا ان غیر مسلمانوں کے غلط اعتراضات کے جوابات بھی اس مجموعے میں شامل کر دیے گئے ہیں جنہوں نے اسلام کو منسخ شدہ ذرائع سے پڑھا ہے۔

ڈاکٹر عبدالکریم نایک

حصہ  
اول

اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے عام سوالات

## صرف اسلام ہی کی پیروی کیوں؟

”تمام مذاہب لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، پھر ایک شخص کو اسلام ہی کی پیروی کیوں کرنی چاہیے؟ کیا وہ کسی دوسرے مذہب کی پیروی نہیں کر سکتا؟“

تمام مذاہب بنیادی طور پر انسان کو صحیح راہ پر چلنے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ لیکن اسلام ان سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہمیں صحیح راہ پر چلنے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے برائی کو خارج کرنے میں عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام انسانی فطرت اور معاشرے کی پیچیدگیوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اسلام خود خالقِ کائنات کی طرف سے رہنمائی ہے، اسی لیے اسلام کو دینِ فطرت، یعنی انسان کا فطری دین کہا گیا ہے۔ اسلام اور دوسرے مذاہب کا بنیادی فرق درج ذیل امور سے واضح ہوتا ہے:

### اسلام اور دیگر زندگی کا تباہ

تمام مذاہب کی تعلیم ہے کہ ڈاکہ زندگی اور چوری ایک بُر افضل ہے۔ اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے، پھر اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام اس تلقین کرنے

کے ساتھ ساتھ کہ ڈاکر زنی اور چوری پر اکام ہے، ایسا سماجی ڈھانچا بھی فراہم کرتا ہے جس میں لوگ ڈاکے نہیں ڈالیں گے۔ اس کے لیے اسلام درج ذیل انسدادی اقدامات تجویز کرتا ہے:

■ زکاۃ کا حکم: اسلام انسانی فلاح کے لیے زکاۃ کا نظام پیش کرتا ہے۔ اسلامی قانون کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی مالی بچت نصاب، یعنی 85 گرام سونے یا اس کی مالیت کو پہنچ جائے تو وہ ہر سال اس میں سے اڑھائی فیصد اللہ کی راہ میں تقسیم کرے۔ اگر ہر امیر شخص ایمانداری سے زکاۃ ادا کرے تو اس دنیا سے غربت، جو ڈاکر زنی کی اصل محرك ہے، ختم ہو جائے گی اور کوئی شخص بھی بھوک سے نہیں مرے گا۔

■ چوری کی سزا: اسلام چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ فَاقْطَلُهُمَا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً إِيمَانًا كَسْبًا تَكَلَّا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (۳۸)

”چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اللہ کی طرف سے ان دونوں کے کیے ہوئے جرم کی سزا ہے۔ اور اللہ بہت طاقتور اور بہت حکمت والا ہے۔“<sup>①</sup>

اس پر غیر مسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ”20 ویں صدی میں ہاتھ کاٹے جائیں؟ اسلام تو ایک ظالم اور وحشیانہ مذہب ہے۔“ لیکن ان کی نیہ سوچ سطحی اور حقیقت سے بعید ہے۔

■ عملی نفاذ: امریکہ کو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ بدستی سے وہاں جرائم، چوری، ڈیکیتی وغیرہ کی شرح بھی سب سے زیادہ ہے۔ فرض کریں کہ امریکہ میں

اسلامی شریعت نافذ کی جاتی ہے اور ہر امیر آدمی نصاب کے مطابق، یعنی 85 گرام سونے سے زائد مال پر ہر سال زکاۃ ادا کرتا ہے اور ہر چور کا ہاتھ سزا کے طور پر کاٹ دیا جاتا ہے تو کیا امریکہ میں چوری اور ڈیکیتی کی شرح بڑھ جائے گی، کم ہو جائے گی یا اتنی ہی رہے گی؟ یقیناً یہ کم ہوگی۔ مزید برآں یہ سخت قانون ممکنہ چوروں کو ارتکابِ جرم سے روکنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

میں اس بات سے متفق ہوں کہ اس وقت دنیا میں چوری کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اگر قطع یہ کی سزا نافذ کی گئی تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے۔ لیکن یہ نکتہ پیشِ نظر ہے کہ جو ہبھی آپ اس قانون کو نافذ کریں گے، چوری کی شرح فوری طور پر کم ہو جائے گی، تاہم اس سے پہلے اسلام کا نظامِ زکاۃ کا فرما ہو اور معاشرے میں صدقات و خیرات اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور غریبوں اور ناداروں کی مدد کا جذبہ فراواں ہو اور پھر سزاوں کا نظام نافذ ہو تو چوری کرنے والا چوری کرنے سے پہلے سو بار سوچ گا کہ وہ اپنا ہاتھ کٹنے کا خطرہ مولے رہا ہے۔ عبرتاک سزا کا تصور ہی ڈاکوؤں اور چوروں کی حوصلہ شکنی کرے گا۔ بہت کم لوگ چوری کریں یا ڈاکیں گے، پھر چند ہی عادی مجرموں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور لاکھوں لوگ چوری اور ڈیکیتی کے خوف کے بغیر سکون سے رہ سکیں گے۔ اس طرح اسلامی شریعت کے عملی نفاذ سے خوشگوار نتائج بھی برآمد ہوں گے۔

### عورتوں کی عصمت دری کا سد بابِ سمر

تمام بڑے مذاہب کے نزدیک عورتوں سے چھیڑ چھاڑ اور ان کی عصمت دری ایک سنگین جرم ہے۔ اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے، پھر اسلام اور دوسرے مذاہب کی تعلیمات میں فرق کیا ہے؟ فرق اس حقیقت میں مضر ہے کہ اسلام مخصوص عورتوں کے احترام کی تلقین ہی نہیں کرتا اور

خواتین سے چھیڑ چھاڑ اور ان کی عصمت دری جیسے سنگین جرام سے نفرت ہی نہیں کرتا بلکہ اس امر کی بھرپور رہنمائی بھی کرتا ہے کہ معاشرے سے ایسے جرام کا خاتمه کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ درج ذیل زریں اصول ملاحظہ کیجیے:

■ مردوں کے لیے حجاب: اسلام کے حجاب کا نظام اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن مجید پہلے مردوں کو حجاب کا حکم دیتا ہے اور پھر عورتوں کو۔ مردوں کے حجاب (پردہ) کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں ہے:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَرُهُمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوجُهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (۳)

”(اے نبی!) مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور اللہ ان تمام باتوں سے بخوبی واقف ہے جو وہ کرتے ہیں۔“<sup>①</sup>

اسلام کہتا ہے کہ ایک شخص کسی غیر محروم عورت کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لے۔

■ عورتوں کے لیے حجاب: عورتوں کے حجاب کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں ہے:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ رِيَنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضِرُّنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُونِهِنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ رِيَنَتَهُنَّ إِلَّا لِعُولَتَهُنَّ أَوْ إِبَابَهُنَّ أَوْ إِبَاءَ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ إِبَاءَ بِهِنَّ أَوْ إِبَاءَ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ بِهِنَّ أَوْ مَالِكَتْ أَيْمَانِهِنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرِ أُولَئِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ

آلَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ﴿١٠﴾

”(اے نبی) مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی نمائش نہ کریں سوائے اُس کے جواز خود ظاہر ہو۔ اور ان کو چاہیے کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہرنہ کریں مگر اپنے شوہر پر یا اپنے باپ پر یا اپنے سر پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی (مسلمان) عورتوں پر یا اپنے دامیں ہاتھ کی ملکیت (کنیزوں) پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکروں پر یا عورتوں کی چھپی باتوں سے ناواقف لڑکوں پر۔ اور وہ (عورتیں) اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی نہ چلیں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے جسے وہ چھپاتی ہیں۔ اور اے مومنو! تم سب اللہ سے توبہ کروتا کہ تم فلاح پاؤ۔“<sup>①</sup>

جانب کی حد یہ ہے کہ تمام جسم ڈھکا ہوا ہو۔ صرف چہرہ اور ہاتھوں کی کلائیاں کھلی رکھی جا سکتی ہیں اور اگر عورتیں چاہیں تو وہ ان اعضاء کو بھی ڈھانپ سکتی ہیں، تاہم بعض علماء اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ چہرہ ڈھانپنا بھی لازم ہے۔ (اور یہی موقف قرین صواب ہے)۔

■ حفاظتی حصار: اللہ تعالیٰ جانب کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اس کی وضاحت سورہ احزاب کی مندرجہ ذیل آیت میں کی گئی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا إِرَأْوَنِجَكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدَنِّيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيْهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَ فَلَا يُؤْذِنُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴽ٥٩﴾

”اے نبی! اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے

اوپر اپنی چادر میں اوڑھ لیا کریں (جب وہ باہر نکلیں) یہ (بات) ان کے لیے قریب تر ہے کہ وہ (حیادار مونات کے طور پر) پہچانی جائیں اور انھیں ایذا نہ دی جائے (کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے) اور اللہ، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔<sup>①</sup>

قرآن کے مطابق حجاب کا حکم عورتوں کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ بایا عورتوں کے طور پر پہچانی جاسکیں اور چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رہیں۔

■ ایک مثال سے وضاحت: فرض کریں، دو جڑواں بہنیں ہیں، دونوں خوبصورت ہیں اور ایک گلی میں جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک اسلامی حجاب میں ہے، جبکہ دوسری منی سکرت میں ملبوس ہے۔ سکرٹ پر کوئی بدمعاش کھڑا کسی لڑکی کو چھیڑ نے کا منتظر ہے۔ وہ کس سے چھیڑ چھاڑ کرے گا؟ اسلامی حجاب میں ملبوس لڑکی سے یا منی سکرت میں ملبوس لڑکی سے؟ ایسا لباس جو جسم کو چھپانے کے بجائے نمایاں کر دے وہ بالواسطہ طور پر مخالف جنس کو چھیڑ چھاڑ اور بدکاری کی دعوت دیتا ہے، لہذا قرآن صحیح کہتا ہے کہ حجاب، یعنی پردہ عورت کو چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رکھتا ہے۔

■ عصمت دری کرنے والے کے لیے موت کی سزا: اسلامی شریعت عصمت دری کرنے والے کی سزا موت قرار دیتی ہے۔<sup>②</sup> غیر مسلم خوفزدہ ہوں گے کہ اتنی بڑی سزا! بہت سے لوگ اسلام کو وحشی اور ظالمانہ مذہب قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ سوچ غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ میں نے یہ عام سوال سینکڑوں غیر مسلموں سے پوچھا ہے کہ فرض کیجیے:

① الأحزاب: 59/33

② ڈاکٹر ذاکرنا نیک نے عصمت دری کرنے والے (Rapist) کی سزا کو "سزا موت" لکھا ہے جبکہ اسلامی شریعت کے نقطہ نظر سے زانی کی سزا یا حد دو قسم کی ہے: رحم (سگسار) اور کوڑے۔ زانی اگر شادی شدہ ہے تو رحم (سگسار) کیا جائے گا اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی (یا قید) کی سزا دی جائے گی۔

خدانخواستہ کوئی آپ کی بیوی، آپ کی ماں یا آپ کی بہن کی عصمت دری کرے اور آپ کو منصف بنایا جائے اور جرم کرنے والے کو آپ کے سامنے لاایا جائے۔ آپ اس کے لیے کیا سزا تجویز کریں گے؟ سب نے کہا: ”ہم اُسے قتل کر دیں گے۔“ اور کچھ اس حد تک گئے کہ ”ہم اس کے مرنے تک اُسے تشدد سے تڑپاتے رہیں گے۔“ اب اگر کوئی آپ کی بیوی یا بیٹی یا آپ کی ماں کی عصمت دری کرے تو آپ اس مجرم کو قتل کرنا چاہیں گے۔ لیکن جب کسی اور کی بیوی، بیٹی یا ماں کی عصمت دری کی جاتی ہے تو مجرم کے لیے سزا نے موت کو وحشیانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر یہ دو ہر امعیار کیوں؟

### امریکہ میں عصمت دری کے روز افزون واقعات

امریکہ کو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ 1990ء کی ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق عصمت دری (Rape) کے 1,02,555 مقدمات درج کیے گئے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ صرف 16 فیصد مقدمات کا اندر ارج ہوا یا ان کی رپورٹ کی گئی۔ یوں 1990ء میں پیش آمدہ عصمت دری کے واقعات کی اصل تعداد معلوم کرنے کے لیے 16/100 یعنی 25.62 سے ضرب دی جائے تو وہ 6,40,968 بنتی ہے۔ اور اگر اس مجموعی تعداد کو سال کے 365 دنوں سے تقسیم کیا جائے تو روزانہ اوسط 1,756 نکلتی ہے۔

بعد کی ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکہ میں اس برس عصمت دری کے اوس طा 1900 واقعات روزانہ پیش آئے۔ امریکی محاکمہ انصاف کے نیشنل کرام سروے بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق صرف 1996ء میں آبروریزی کے 3,07,000 واقعات کی رپورٹ کی گئی اور یہ اصل تعداد کا صرف 31 فیصد تھی۔ اس طرح عصمت دری کے واقعات کی اصل تعداد 9,90,332 بنتی ہے جو دس لاکھ کے قریب ہے۔ گویا امریکہ میں اس سال ہر 32 سینٹ کے

بعد عصمت دری کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ہو سکتا ہے اب امریکہ میں ایسے گھناؤ نے جرائم کا ارتکاب کرنے والے اور دلیر ہو گئے ہوں۔ 1990ء کی ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق وہاں عصمت دری کے جتنے واقعات کی رپورٹ کی گئی ان کے مجرموں میں سے صرف 10 فیصد گرفوار کیے گئے جو زانیوں کی کل تعداد کا صرف 1.6 فیصد تھے۔ اور گرفوار شدگان میں سے بھی 50 فیصد کو مقدمے کی نوبت آنے سے پہلے ہی چھوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف 0.8 فیصد مجرموں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا۔ دوسرے لفظوں میں اگر ایک شخص 125 مرتبہ یہ جرم کرتا ہے تو اسے صرف ایک بار سزا ملنے کا امکان ہے۔ ایک دوسری رپورٹ کے مطابق 50 فیصد لوگ جن کو ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑا انھیں ایک سال سے بھی کم قید کی سزا سنائی گئی۔ اگرچہ امریکی قانون کے مطابق ایسے جرم کے مرتكب افراد کی سزا سات سال قید ہے مگر پہلی دفعہ ایسا گھناؤنا جرم کرنے والے کے ساتھ نج نزی کارویہ اختیار کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک شخص 125 دفعہ یہ جرم کرتا ہے اور اس کے مجرم ٹھہرائے جانے کا امکان ایک فیصد ہوتا ہے اور اس میں بھی نصف مرتبہ نج نزی کارویہ اختیار کرتے ہوئے اسے ایک سال سے بھی کم کی سزا دیتا ہے۔

### اسلامی شریعت کی برکت

فرض کریں امریکہ میں اسلامی شریعت کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنی نگاہ پنچی کر لیتا ہے۔ اور ہر عورت اسلامی حجاب، یعنی پردے میں رہتی ہے اور اس کا پورا جسم سوائے ہاتھوں اور چہرے کے ڈھکا ہوتا ہے۔ اس صورت حال کے باوجود اگر کوئی کسی کی عصمت دری کرتا ہے اور مجرم کو سزا نے موت دی جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح عصمت دری کی شرح بڑھ جائے گی، وہی رہے گی یا کم ہو جائے گی؟ یقیناً

شرح کم ہو جائے گی اور یہ اسلامی شریعت کے نفاذ کا با برکت نتیجہ ہو گا۔

### اسلام میں تمام سائل کا عملی حل

اسلام بہترین طرز زندگی ہے کیونکہ اس کی تعلیمات محض نظریاتی ہی نہیں بلکہ وہ انسانیت کو درپیش سائل کے عملی حل بھی پیش کرتی ہیں، لہذا اسلام انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر بہتر نتائج حاصل کرتا ہے۔ اسلام بہترین طرز زندگی ہے کیونکہ یہ قبل عمل عالمگیر مذہب ہے جو کسی ایک قوم یا نسل تک محدود نہیں، اسی لیے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جس کو اپنا کر انسان اپنی شاہراہ حیات بالکل سیدھی بنانا کر اخروی زندگی میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اخروی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے۔

## کیا مسلمان کعبہ کو پوجتے ہیں؟

”جب اسلام بتوں کی پوجا کے خلاف ہے تو مسلمان اپنی نمازوں میں کعبہ کے آگے کیوں جھکتے ہیں اور اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟“

کعبہ ہمارا قبلہ ہے، یعنی وہ سمت جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ مسلمان نمازوں میں کعبہ کی طرف رُخ کرتے ہیں لیکن وہ کعبہ کو پوجتے ہیں نہ اس کی عبادت کرتے ہیں بلکہ مسلمان صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔

اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے:

﴿قَدْ نَرَى تَقْلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

”(اے نبی!) ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہذا ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ سو آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔“<sup>①</sup>

### قبلہ اتحاد و اتفاق کا ذریعہ ہے

اسلام وحدت کا دین ہے، چنانچہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے اسلام نے ان کا ایک قبلہ تعین کیا ہے اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، نماز کے وقت کعبے کی طرف رُخ کریں۔ جو مسلمان کعبے کے مغرب کی طرف رہتے ہوں، وہ اپنا رُخ مشرق کی طرف کریں گے اور جو مشرق کی طرف رہتے ہوں، وہ اپنا رُخ مغرب کی طرف کریں گے۔

### کعبہ نقشہ عالم کے وسط میں ہے

یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے دنیا کا نقشہ بنایا۔ ان کے نقشوں میں جنوب اور پر کی طرف تھا اور شمال نیچے کی طرف اور کعبہ درمیان میں تھا۔ بعد میں مغربی نقشہ نگاروں نے جو نقشے بنائے، ان میں شمال اور جنوب نیچے کی طرف دکھایا گیا جیسا کہ آج کل دنیا کے نقشے بنائے جاتے ہیں۔ بہر حال الحمد للہ کعبہ دنیا کے نقشے کے تقریباً وسط میں ہے۔

### طواف کعبہ

جب مسلمان مکہ کی مسجد حرام میں جاتے ہیں، وہ کعبے کے گرد چکر لگا کر طواف کرتے ہیں۔ ان کا یہ عمل واحد سچے معبود پر ایمان اور اس کی عبادت کی علامت ہے۔ جیسے ہر دائرے کا ایک ہی مرکز ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے۔

### حضرت عمر بن الخطاب کی ایک حدیث میں عقیرہ تو جد

جہاں تک سیاہ پتھر، یعنی حجر اسود کی حرمت کا تعلق ہے، حضرت عمر بن الخطاب کی ایک حدیث سے واضح ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا: [إِنَّمَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ

وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكُمْ مَا قَبَّلْتُكُمْ [”میں یقیناً جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے، نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم ﷺ کو تجھے چومنے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔“]

## کعبہ کی حجت پر اذان

نبی کریم ﷺ کے دور میں لوگ کعبہ کی حجت کے اور کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔  
اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کعبہ کو پوجتے ہیں تو بھلاکون ساتوں کو  
پوجتے والا اس بُت کے اور کھڑا ہوتا ہے جس کی وہ پوجا کرتا ہے؟<sup>③</sup>

<sup>①</sup> صحيح البخاري، الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، حدیث: 1597

<sup>②</sup> تحلیل نبوت، ص: 226

<sup>③</sup> اسلام میں پوجنے اور عبادت کرنے کا تصور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے۔ جغر، شجر، شخصیات یا استھان کی پوجا کا تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ اسلام نے تو ایسی جگہ پر بھی عبادت سے روک دیا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا شبہ پیدا ہو سکتا ہو، مثلاً قبرستان میں نماز ادا کرنا، یا ایسی جگہ عبادت کرنا جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، منوع ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کسی دور میں کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے کسی مکان یا عمارت کی عبادت کی ہو۔ اسلام میں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا تصور ہوتا تو محمد ﷺ اس لائق تھے کہ آپ کی قبر کو قبلہ بنایا جاتا اور اس کی عبادت کی جاتی۔ لیکن آپ ﷺ نے اس سے سختی سے منع کر دیا، اسی طرح آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، پھر یہ بات بھی ہے کہ بتوں کے پچاری توبت خانے میں جا کر عبادت کرتے ہیں یا ان بتوں کے ماؤں بنا کر سامنے رکھتے ہیں جب کہ مسلمان قبولیت عبادت کے لیے خانہ کعبہ جانے کو شرط قرار دیتے ہیں نہ اس کا ماؤں اپنے سامنے رکھنا جائز سمجھتے ہیں۔ وہ توجہت کعبہ کو سامنے رکھ کر کعبہ کے بجائے رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں۔ (عنان میب)

## کیا اسلام بزورِ شمشیر پھیلا؟

”اسلام کو امن و سلامتی کا مذہب کیسے کہا جا سکتا ہے جبکہ یہ توارکے زور سے پھیلا؟“

کچھ غیر مسلم عام طور پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے اتنی زیادہ تعداد میں نہ ہوتے اگر اسلام توارکے ذریعے سے نہ پھیلا ہوتا۔ مندرجہ ذیل نکات یہ حقیقت واضح کریں گے کہ اسلام بزورِ طاقت ہرگز نہیں پھیلا بلکہ اپنی عالمگیر صداقت، عقل پرمنی تصورات اور سچائی پرمنی دلائل کی بدولت اسلام کو فروغ ملا ہے۔

### اسلام کا مطلب

اسلام لفظ ”سلام“ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سلامتی اور امن۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے آگے جھکا دیا جائے، پس اسلام سلامتی اور امن کا مذہب ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دینے کی بدولت نصیب ہوتا ہے۔

### طاقت کا استعمال

دنیا میں ہر انسان امن اور ہم آہنگی قائم رکھنے کے حق میں نہیں ہوتا یا بہت سے لوگ

ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے امن و امان کو خراب کرتے ہیں، لہذا بعض اوقات امن قائم رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرائم کے سد باب کے لیے پولیس کا نظام قائم کیا گیا ہے جو مجرموں اور سماج دشمن عناصر کے خلاف طاقت استعمال کرتی ہے تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہے۔ اسلام امن کا خواہاں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے ماننے والوں کو ظلم اور استھصال کے خلاف لڑنے کا حکم دیتا ہے۔ بعض اوقات ظلم سے لڑنے اور اسے ختم کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام میں طاقت کا استعمال صرف ظلم کے خاتمے، امن کے فروغ اور عدل کے قیام کے لیے ہے اور اسلام کا یہ پہلو سیرت النبی ﷺ، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے عہد کے ادوار سے بخوبی آشکار ہوتا ہے۔

### مختصر ذاتی تاریخی اور تحریکی کی روایتی سر

اس غلط نظریے کا جواب کہ اسلام بزرور شمشیر پھیلا، ایک انگریز مورخ ڈی لیسی او لیری نے اپنی کتاب "Islam at the Cross Road" (صفحہ 8) میں بہترین انداز میں دیا ہے:

"تاریخ بہر حال یہ حقیقت واضح کر دیتی ہے کہ مسلمانوں کے متعلق روایتی تعصباً پر مبنی کہانیاں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اور اس کے ذریعے سے جنونی مسلمان دنیا پر چھا گئے، سب نا معقول اور فضول افسانے ہیں جنھیں مورخین نے بار بار دُہرا یا ہے۔"

### تین میل مسلمانوں کے 800 بڑے

مسلمانوں نے چین میں تقریباً 800 سال حکومت کی اور وہاں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ بعد میں صلیبی عیسائی بر سراقدار آئے تو انہوں نے وہاں سے

مسلمانوں کا صفائی کر دیا اور پھر پسین میں ایک بھی مسلمان ایسا نہ تھا جو آزادی سے ”اذان“ دے سکے۔

### تقریباً ڈیڑھ کروڑ عرب نسلی عیسائی ہیں

مسلمان دنیا نے عرب پر 1400 سال سے حکمران ہیں۔ اس کے باوجود ابھی تک 14 ملین، یعنی ایک کروڑ چالیس لاکھ عرب ایسے ہیں جو نسلوں سے عیسائی ہیں، جیسے مصر کے قبطی عیسائی۔ اگر اسلام تواریخ اطاقت کے زور پر پھیلا ہوتا تو عرب میں ایک بھی عیسائی نہ ہوتا۔

### بھارت میں غیر مسلم

ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً ایک ہزار سال حکومت کی۔ اگر وہ چاہتے تو بذریعہ طاقت ہندوستان کے ہر غیر مسلم کو مسلمان کر لیتے۔ آج بھارت کی 80 فیصد آبادی غیر مسلموں کی ہے۔ یہ تمام غیر مسلم کیا اس بات کی زندہ شہادت نہیں ہیں کہ اسلام تواریخ سے نہیں پھیلا۔

### اندونیشیا اور ملائشیا میں اسلام

دُنیا بھر کے ممالک میں سے اندونیشیا میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اسی طرح ملائشیا میں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھئے کہ کون سی اسلامی فوج اندونیشیا اور ملائشیا گئی تھی؟

### افریقہ کا مشرقی ساحل

اسی طرح اسلام بہت تیزی سے برابع اعظم افریقہ کے مشرقی ساحل پر پھیلا۔ مستشرقین سے

پوچھا جاسکتا ہے کہ اگر اسلام توار کے ذریعے سے پھیلا تو کونسی اسلامی فوج افریقہ کے مشرقی ساحل پر گئی تھی۔

### خامس کارلائل کی روایت

مشہور مورخ تھامس کارلائل اپنی کتاب ”ہیر و اینڈ ہیر و ورشپ“ میں اسلام کے پھیلاؤ کے بارے میں مغربی تصورات کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے:

”اسلام کے فروغ میں توار استعمال ہوئی لیکن یہ توار کیسی تھی؟ ایک نظریہ تھا۔ ہر دنیا نظریہ شروع میں فرد واحد کے نہاں خاتمة دماغ میں جنم لیتا ہے۔ وہاں وہ نشوونما پاتا رہتا ہے۔ اس پر دنیا بھر کا صرف ایک ہی آدمی یقین رکھتا ہے، گویا ایک شخص فکری لحاظ سے تمام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ میں توار لے اور اس کے ذریعے سے اپنا نظریہ پھیلانے کی کوشش کرے تو یہ کوشش بے سود رہے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے نظریے کی توار سے سرگرم عمل رہیں تو وہ نظریہ دنیا میں اپنی قوت سے خود بخود پھیلتا چلا جائے گا۔“

### وین میں کوئی جبر نہیں

یہ درست نہیں کہ اسلام توار کے زور سے پھیلا۔ مسلمان فروغ اسلام کے لیے توار استعمال کرنا چاہتے بھی تو استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ قرآن مجید مندرجہ ذیل آیت میں کہتا ہے:

﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَ الرَّشُدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

”وین میں کوئی جبر نہیں۔ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔“

## حکمت کی تلوار

فروع اسلام کا باعث دراصل حکمت کی تلوار ہے۔ یہ ایسی تلوار ہے جو دل اور دماغ فتح کر لیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے:

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالْقِيَهِ أَحَسَنَ﴾

”لگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین وعظ کے ساتھ بلا نیں اور ان سے بہترین طرزیقے سے بحث کریں۔“<sup>①</sup>

## نصف صدی میں عالمی مذاہب کے پیروکاروں میں اضافہ

1986ء میں ریڈرز ڈا جسٹ کے ایک مضمون میں 1934ء سے 1984ء تک نصف صدی میں دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے پیروکاروں کی تعداد میں فیصد اضافے کے اعداد و شمار دیے گئے تھے۔ یہ مضمون ”صاف حق“ (The Plain Truth) نامی جریدے میں بھی چھپا۔ ان میں سرفہrst اسلام تھا جس کے پیروکاروں کی تعداد میں 235 فیصد اضافہ ہوا اور عیسائیت میں اضافہ صرف 47 فیصد رہا۔ پوچھا جاسکتا ہے کہ اس صدی میں کون سی مذہبی جنگ لڑی گئی جس نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیا۔

## امریکہ اور یورپ میں روز افزودیں مذہب اسلام ہے

آج یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ بڑھنے والا مذہب اسلام ہے۔ وہ کون سی تلوار

ہے جو لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ تلوار اسلام کا سچا عقیدہ ہے۔

### ڈاکٹر جوزف آدم پیٹرن کا اعلان حقیقت

ڈاکٹر جوزف آدم پیٹرن صحیح کہتے ہیں:

”جو لوگ فکر مند ہیں کہ ایسی ہتھیار ایک دن عرب لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں گے، وہ اس حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ اسلامی بم تو پہلے ہی گرایا جا چکا ہے، یہ اس دن گراحتا جب محمد ﷺ پیدا ہوئے تھے۔“

WWW. DEENEKHALIS. COM

WWW. RAHE HAQ. COM

WWW. ESNIPS. COM /USER/TRUEMASLAK

## مسلمان بنیاد پرست اور دہشت گرد ہیں؟

”مسلمانوں کی اکثریت بنیاد پرست اور دہشت گرد کیوں ہے؟“

یہ سوال مذاہب یا عالمی امور کے متعلق کسی بحث میں بالواسطہ یا بلاواسطہ مسلمانوں کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ رائج العقیدہ اور ”بنیاد پرست“ مسلمانوں کا ذکر تمام ذرائع ابلاغ میں بار بار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق افتراء پردازی کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ دراصل یہ بے بنیاد پروپیگنڈہ مسلمانوں کے خلاف امتیاز اور تشدد کا باعث بنتا ہے۔ اس کی ایک مثال اوکلا ہوما میں ہونے والے بم دھاکے کی ہے جس کے بعد امریکی میڈیا نے مسلم دشمنی کی مہم چلائی۔ اسے مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کی سازش قرار دیا گیا جبکہ مجرم امریکی فوج کا ایک سپاہی تھا۔

آئیے! ہم ”دہشت گردی“ اور ”بنیاد پرستی“ کے الزامات کا تجزیہ کریں۔

### بنیاد پرست کی تعریف

بنیاد پرست ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے عقیدے یا نظریے کی مبادیات، یعنی بنیادی باتوں سے پوری طرح وابستہ ہو اور ان پر پوری طرح کاربند ہو۔ اگر ایک شخص اچھا ڈاکٹر

بننا چاہتا ہے تو اسے طب کی مبادیات کا علم ہونا اور ان پر اس کا عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اور ایک اچھے ریاضی دان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریاضی کی مبادیات سے اچھی طرح واقف ہو۔ گویا ایک ڈاکٹر کو طب میں اور ایک ریاضی دان کو ریاضی کے شعبے میں فنڈ امنیلسٹ (Fundamentalist) یا بنیاد پرست ہونا چاہیے، اسی طرح ایک سائنسدان کو سائنس کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہئیں۔ دوسرے الفاظ میں اسے سائنس کے میدان میں بنیاد پرست ہونا چاہیے، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ایک شخص کا بنیاد پرست ہونا ضروری ہے۔

### تمام بنیاد پرست ایک جیسے نہیں سر

حقیقت یہ ہے کہ تمام بنیاد پرست ایک جیسے نہیں اور نہ ان کو ایک جیسا کہا جا سکتا ہے۔ تمام بنیاد پرستوں کو اچھے یا بُرے گروہوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بنیاد پرست کی کسی گروہ سے وابستگی کا انحصار اس کے متعلقہ شعبے اور سرگرمی پر ہے جس میں وہ بنیاد پرستی کا مظاہرہ کرے۔ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر یا چوراپنے پیشے میں بنیاد پرست ہوتا ہے جو معاشرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے اور اس لیے ناپسندیدہ تھہرتا ہے جبکہ اس کے بر عکس ایک بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور بہت معزز بھی۔

### مجھے بنیاد پرست ہونے پر فخر ہے سر

میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کے بنیادی اصولوں کو جانتا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک صحیح مسلمان کو بنیاد پرست ہونے پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے بنیاد پرست مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ

اسلام کے بنیادی اصول نہ صرف انسانیت بلکہ تمام دنیا کے لیے مفید ہیں۔ اسلام کا ایک بھی بنیادی اصول ایسا نہیں جو تمام بی نوع انسان کے مقام میں نہ ہو یا ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں غلط تصورات رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بہت سی تعلیمات ٹھیک نہیں اور نا انصافی پر مبنی ہیں۔ یہ اندازِ فکر اسلام کے بارے میں غلط اور ناکافی معلومات کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی کھلے دل و دماغ سے اسلام کی تعلیمات کا جائزہ لے تو وہ اس حقیقت تک پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام انفرادی اور اجتماعی دائروں میں یکساں طور پر فائدہ مند ہے۔

### بنیاد پرست کا لغوی مطلب سر

ویبسترز (Websters) کی انگریزی ڈکشنری کے مطابق Fundamentalism یا بنیاد پرستی ایک تحریک تھی جو بیسویں صدی کے شروع میں امریکی پروٹسٹنٹوں کے اندر آئی۔ یہ تحریک جدیدیت کے خلاف رہ عمل تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ صرف عقائد اور اخلاق بلکہ تاریخی ریکارڈ کے حوالے سے بھی بائبل کے غلطیوں سے پاک ہونے پر زور دیتے تھے۔ وہ اس پر بھی زور دیتے تھے کہ بائبل کا متن ہو بہو خدا کے الفاظ ہیں۔ اس طرح بنیاد پرستی ایک ایسی اصطلاح ہے جو سب سے پہلے عیسائیوں کے ایک گروہ کے لیے استعمال کی گئی جو یقین رکھتے تھے کہ بائبل لفظ بہ لفظ خدا کا کلام ہے اور اس میں کوئی غلطی یا تحریف نہیں۔

لیکن اب آسکفورڈ ڈکشنری کے مطابق ”بنیاد پرستی“ کا مطلب ہے:

”کسی مذہب، خاص طور پر اسلام، کے قدمیں یا بنیادی نظریات پرختی سے کاربند ہونا۔“ یوں مغربی دانشوروں اور میڈیا نے ”بنیاد پرستی“ کی اصطلاح کو عیسائیت سے الگ کر کے خاص طور پر اسلام سے وابستہ کر دیا ہے۔

آج جب کوئی بنیاد پرست کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں ایک مسلمان کا تصور آتا ہے جو اس کے خیال میں دہشت گرد ہے۔

### ہر مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے سر

ہر مسلمان کو ”دہشت گرد“ ہونا چاہیے۔ دہشت گرد ایسے شخص کو کہتے ہیں جو دہشت پھیلانے کا باعث ہو۔ جب کوئی ڈاکو کسی پولیس والے کو دیکھتا ہے تو وہ دہشت زده ہو جاتا ہے۔ گویا ڈاکو کے لیے پولیس والا دہشت گرد ہے، اسی طرح ہر مسلمان کو چور، ڈاکو اور زانی جیسے سماج دشمن عناصر کے لیے دہشت گرد ہونا چاہیے۔ جب ایسا سماج دشمن شخص کسی مسلمان کو دیکھتے تو اسے دہشت زده ہو جانا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ لفظ ”دہشت گرد“ عام طور پر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عام لوگوں کے لیے خوف اور دہشت کا باعث ہو لیکن سچے اور صحیح مسلمان کو صرف مخصوص لوگوں کے لیے دہشت گرد ہونا چاہیے، یعنی سماج دشمن عناصر کے لیے نہ کہ عام بے گناہ لوگوں کے لیے۔ درحقیقت ایک مسلمان بے گناہ لوگوں کے لیے امن اور سلامتی کا باعث ہوتا ہے۔

### دہشت گردی کا باعث میں کتن؟ سر

آزادی ہند سے پہلے انگریزوں کی حکمرانی کے زمانے میں بعض مجاہدین آزادی جو عدم تشدد کے حامی نہیں تھے، انھیں انگریزوں کی حکومت ”دہشت گرد“ کے نام سے موسم کرتی تھی لیکن عام ہندوستانیوں کے نزدیک تشدد پر مبنی سرگرمیوں میں مصروف یہ افراد محظی طین تھے۔ یوں ان لوگوں کی سرگرمیوں کو فریقین کی طرف سے مختلف نام دیے گئے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان پر حکومت کرنا انگریزوں کا حق ہے، وہ ان لوگوں کو دہشت گرد کہتے تھے جبکہ

دوسرے لوگ جن کا خیال تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، انھوں نے ان لوگوں کو محب وطن اور مجاہد آزادی قرار دیا۔

پس یہ نہایت ضروری ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ دینے سے پہلے اُس کی بات سنی جائے۔ دونوں طرف کے دلائل سنئے جائیں، صورت حال کا تجزیہ کیا جائے، پھر اُس شخص کی دلیل اور مقصد کو پیش نظر کر کہ اس کے مطابق اُس کے بارے میں رائے قائم کی جائے۔

### اسلام کا مطلب سلامتی ہے

لفظ اسلام "سلام" سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سلامتی۔ یہ امن کا مذہب ہے جس کے بنیادی اصول اس کے پیروکاروں کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ دُنیا میں امن قائم کریں اور اسے فروغ دیں۔

چنانچہ ہر مسلمان کو بنیاد پرست ہونا چاہیے۔ اس کو امن کے دین اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے اور اسے صرف سماج و شمین عناصر کے لیے دہشت گرد ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں امن اور عدل و انصاف کو فروغ ملے۔

## موت کے بعد زندگی کیوں؟

”آپ آخرت، یعنی موت کے بعد زندگی کے وجود کو کیسے ثابت کریں گے؟“

کئی لوگ جیران ہوں گے کہ سائنسی اور عقلی دلائل کا حامل ایک شخص اخروی زندگی پر کیسے یقین رکھ سکتا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص آخرت کی زندگی پر یقین رکھتا ہے وہ صرف انہیں اعتماد کی بنا پر ایسا کرتا ہے جبکہ اخروی زندگی پر میرا یقین عقلی دلائل پر بنی ہے۔

### آخرت کا عقیدہ عقلی بنیاد پر

قرآن عظیم میں ایک ہزار سے زیادہ آیات ہیں جو سائنسی حقائق پر بنی ہیں۔ اس کے لیے میری کتاب Quran and Modern Science: Compatible or Incompatible? (قرآن اور جدید سائنس: مطابقت رکھتے ہیں یا عدم مطابقت؟) دیکھیے۔

قرآن میں مذکور بہت سے حقائق گزشتہ چند صد یوں میں سائنسی سلطھ پر دریافت ہوئے ہیں۔ لیکن سائنس ابھی تک قرآن کے ہر بیان کی تصدیق کی سلطھ پر نہیں پہنچی۔

فرض کریں قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں سے 80 فیصد بیانات سو فیصد درست ہیں۔ باقی 20 فیصد بیانات کے متعلق سائنس کوئی حتمی بات نہیں کہتی کیونکہ ابھی وہ اس

مقام پر نہیں پہنچی جہاں وہ ان بیانات کو ثابت کر سکے یا جھٹلائے۔ ہم اپنے محدود علم کی روشنی میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے اس 20 فیصد حصے میں سے ایک فیصد یا ایک آیت بھی غلط ہے۔ اب جبکہ 80 فیصد قرآن سو فیصد صحیح ہے اور باقی 20 فیصد کو غلط ثابت نہیں کیا گیا تو منطق کہتی ہے کہ باقی 20 فیصد بھی صحیح ہے۔ موت کے بعد زندگی جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ اس 20 فیصد غیر واضح حصے میں ہے جس کے متعلق منطق یہ کہتی ہے کہ صحیح ہے۔

### امن اور انسانی اقدار کا تصور سر

ڈاکہ زندگی اچھائی ہے یا بُرائی؟ ایک عام عاقل آدمی کے نزدیک یہ بُرائی ہے۔ ایک شخص جو موت کے بعد زندگی پر یقین نہیں رکھتا، کسی طاقتوار باثر ملزم کو کیسے قائل کر سکتا ہے کہ ڈاکہ زندگی بُرائی ہے؟

فرض کریں کہ میں دنیا میں سب سے طاقتوار باثر مجرم ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ذہین اور منطقی شخص بھی ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ڈاکہ زندگی اچھی بات ہے کیونکہ یہ مجھے پر تعلیم زندگی برکرنے میں مدد دیتی ہے، اس لیے یہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ اگر کوئی میرے سامنے منطقی دلیل لاسکے کہ یہ میرے لیے کیوں بُری ہے تو میں اسے فوراً چھوڑ دوں گا۔ لوگ عام طور پر مندرجہ ذیل دلائل دیتے ہیں:

- لئنے والے کے لیے مشکلات: کچھ لوگوں کے نزدیک لئنے والا شخص مشکلات کا سامنا کرے گا۔ میں یقیناً متفق ہوں کہ یہ اس کے لیے بُرا ہے جو لوٹ جاتا ہے لیکن میرے لیے اچھا ہے۔ اگر میں ہزاروں ڈالر لوٹتا ہوں تو میں کسی فائیو سٹار ہوٹ میں اچھے کھانے سے لطف انداز ہو سکتا ہوں۔

- کوئی آپ کو بھی لوٹ سکتا ہے: کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ کسی دن میں بھی لٹ جاؤں

گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں لوٹ سکتا کیونکہ میں ایک بہت طاقتور مجرم ہوں اور میرے سینکڑوں محافظ ہیں۔ میں کسی کو بھی لوٹ سکتا ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں لوٹ سکتا۔ ڈاکہ زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے لیکن میرے جیسے بااثر آدمی کے لیے نہیں۔

■ پولیس تعمیص گرفتار کر سکتی ہے: کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو لوٹو گے تو پولیس تعمیص گرفتار کر لے گی۔ لیکن پولیس مجھے گرفتار نہیں کر سکتی کیونکہ میں پولیس کو حصہ دیتا ہوں اور میرے حصے داروزیر بھی ہیں۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ اگر عام آدمی ڈاکہ زندگی کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا اور یہ اس کے لیے اچھا نہ ہوگا لیکن میں غیر معمولی طور پر بااثر اور طاقتور مجرم ہوں۔

میرے سامنے کوئی منطقی دلیل پیش کریں کہ میرے لیے ڈاکہ زندگی کیوں بُری ہے، تب میں اس برے کام سے رک جاؤں گا۔

■ پیسہ کانے کا آسان طریقہ: کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے روپیہ کمانا آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ یہ آسان طریقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں ڈاکہ زندگی کرتا ہوں۔ اگر ایک شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ پیسہ کانے کا آسان طریقہ منتخب کرے یا مشکل تو منطقی شخص آسان راستہ ہی اختیار کرے گا۔

■ انسانیت کے منافی فعل: کچھ لوگوں کے نزدیک ڈاکہ زندگی انسانیت کے خلاف ہے اور یہ کہ ایک انسان کو دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں دوبارہ دلیل دے کر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس چیز کو ”انسانیت“ (Humanity) کہتے ہیں وہ کس کا قانون ہے اور مجھے کیوں اس پر عمل کرنا چاہیے؟ یہ قانون جذباتی اور جو شیئے شخص کے لیے اچھا ہو سکتا ہے مگر میں تو منطقی شخص ہوں مجھے دوسروں کا خیال کرنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔

■ خود غرضی سے لطفِ حیات: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اوروں کو لوٹنا خود غرضی ہے۔ یہ ٹھیک

ہے کہ یہ خود غرضانہ فعل ہے لیکن مجھے خود غرض کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ خود غرضی مجھے زندگی سے اطف اندوز ہونے میں مدد دیتی ہے۔

■ ڈاکہ زنی بہر حال بُرا کام ہے: یہ ثابت کرنے کے تمام دلائل کہ ڈاکہ زنی ایک بُرا کام ہے، بے کار ہیں۔ یہ ایک عام آدمی کو تو مطمئن کر سکتے ہیں لیکن میرے جیسے طاقتوار اور با اثر مجرم کو نہیں۔ ان دلائل کا منطقی اور عقلی حوالوں سے دفاع نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ اس دنیا میں بہت سے مجرم ہیں۔ اسی طرح زنا بالجبرا اور دھوکہ دہی وغیرہ کو بھی میرے جیسے شخص کے لیے اچھا ثابت کیا جاسکتا ہے اور کوئی منطقی دلیل موجود نہیں جو مجھے قائل کر سکے کہ یہ بُرے کام ہیں۔

### مسلمان کا مجرم کو قائل کرنا

آئیے اب کردار بدلتے ہیں۔ فرض کیجیے کہ آپ بہت طاقتوار اور با اثر مجرم ہیں۔ آپ نے پولیس اور وزیروں کو بھی پیسے سے خرید رکھا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ٹھگوں کی فوج موجود ہے۔ لیکن میں بحیثیت مسلمان آپ کو قائل کر سکتا ہوں کہ ڈاکہ زنی، زنا بالجبرا اور دھوکہ دہی وغیرہ بُرے کام ہیں۔ اگر میں بھی وہی دلائل دوں جو پہلے دیے جا چکے ہیں کہ ڈاکہ زنی ایک بُرا کام ہے تو مجرم وہی جواب دے گا جو پہلے دے چکا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ مجرم کے منطقی ہونے کے باوجود اس کے تمام دلائل صرف اس وقت تک ہی صحیح ہیں جب وہ بہت طاقتوار اور با اثر ہو۔ لیکن اگر اس کے اوپر اس سے کہیں زیادہ طاقتوار ایک ہستی موجود ہے، اور یقیناً ہے، تو صورتِ حال بدل جاتی ہے۔

■ مجرم بھی انصاف چاہتا ہے: ہر انسان انصاف کا آرزومند ہے۔ اگر دوسروں کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے لیے ضرور انصاف چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ طاقت اور اختیارات کے

نشے میں دوسروں کو دکھ اور تکلیف پہنچاتے ہیں، تاہم وہ لوگ بھی اس وقت یقیناً اعتراض کرتے ہیں جب خود ان سے بے انصافی کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کی تکالیف سے بے خبر ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طاقت اور اختیارات کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت اور اختیارات انھیں نہ صرف دوسروں سے نا انصافی کرنے کی اجازت دیتے ہیں بلکہ ان کو دوسروں کے ظلم سے بھی بچاتے ہیں۔

■ سب سے طاقتو ر اور عادل: بحیثیت مسلمان میں ایک مجرم کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل کروں گا اور کہوں گا کہ اللہ تم سے کہیں زیادہ طاقتو ر اور انصاف کرنے والا ہے۔ قرآن عظیم کہتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ إِمْمَانَ ذَرَقَةً﴾

”بلا شبه اللہ (کسی پر) ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔“<sup>①</sup>

■ اللہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ ایک مجرم کے رو برو جب وجود باری تعالیٰ کے بارے میں قرآن سے سائنسی حقائق پیش کیے جائیں تو منطقی اور سائنسی نقطہ نظر رکھنے کے باعث وہ اتفاق کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ لیکن وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ طاقتو ر اور عادل ہے تو پھر مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟

■ بے انصاف لوگوں کو سزا ملنی چاہیے: ہر وہ شخص جس سے بے انصافی ہوئی ہو، چاہے اُس کا سماجی یا معاشری مرتبہ کچھ بھی ہو، وہ چاہے گا کہ بے انصافی کے مرتكب شخص کو سزا ملے۔ ہر معقول شخص چاہے گا کہ ڈاکو یا عصمت دری کے مرتكب کو سبق سکھایا جائے۔ اگرچہ مجرموں کی ایک بڑی تعداد کو سزا دی جاتی ہے، اس کے باوجود بہت سے مجرم ایسے بھی ہوتے ہیں جو محابی سے فوج جاتے ہیں۔ وہ بڑی خوشگواری اور عیش کی زندگی بس رکتے ہیں۔ اگر کسی طاقتو ر اور

باختیار شخص کے ساتھ کوئی ایسا طاقتوار با اختیار شخص بے انصافی کرے جو اس سے بڑھ کر طاقتوار ہوتا وہ بھی چاہے گا کہ بے انصافی کے مرتكب شخص کو سزا دی جائے۔

عاقبت کے لیے آزمائش: انسان کی یہ زندگی موت کے بعد کی زندگی کے لیے امتحان ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِبَلُوغِكُمْ أَنْكُمْ أَهْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْغَيْرُ الْغَفُورُ﴾ ①

”وہ (اللہ) جس نے موت اور زندگی تخلیق کی ہے تاکہ وہ تمھیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ بڑا زبردست اور بہت بخشنے والا ہے۔“<sup>②</sup>

■ یوم حساب کو آخری انصاف: قرآن عظیم میں ہے:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُؤْفَقُ أُجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحِزَّ عَنِ النَّارِ وَأُذْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورُ﴾ ③

”اور ہر ذی روح موت کا ذاتِ اللہ چکھنے والا ہے۔ اور قیامت کے دن تمھارے بد لے پورے پورے دیے جائیں گے، پھر جو شخص (جہنم کی) آگ سے بچ گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب رہا۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔“<sup>④</sup>

آخری انصاف یوم حساب کو ہو گا۔ جب ایک شخص مر جائے گا تو اس کے بعد قیامت کے دن اُسے دوسرے انسانوں کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ ممکن ہے کہ کسی مجرم کو اس کی سزا کا کچھ حصہ اس دنیا میں مل جائے لیکن آخری جزا اور سزا اس کو دوسری زندگی ہی میں ملے گی۔ ممکن ہے اللہ کسی ڈاکو یا زنا بال مجرم کے مجرم کو اس دنیا میں سزا نہ دے لیکن وہ قیامت کے دن

یقیناً جوابدہ ہوگا اور پوری پوری سزا پائے گا۔

### ہتلر کو سزا کیوں نہیں؟

کہا جاتا ہے کہ جرمن آمرایڈولف ہتلر نے اپنے پُر دہشت دور حکومت میں لاکھوں یہودیوں کو گیس چیبروں میں جلا کر خاک کر دیا۔ جرمنی کی شکست کے بعد پولیس اس کو گرفتار بھی کر لیتی تو انسانی قوانین کے تحت اس کو کیا سزا دی جاتی جس سے انصاف کا تقاضا پورا ہوتا؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ اس کو بھی گیس چیبر میں ڈال دیتے لیکن یہ تو صرف ایک یہودی کو مارنے کی سزا ہوتی۔ باقی لاکھوں یہودیوں کے قتل کا بدلہ کیسے لیا جاتا؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے۔

### ہتلر کو دوزخ کی سزا

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِثَا يَنْتَنِي سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوْفُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ ⑤

” بلاشبہ جو لوگ ہماری آیات کو جھلاتے ہیں، ان کو ہم جلد آگ میں ڈالیں گے جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، تو پھر ہم ان کوئی کھالوں میں تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔ بے شک اللہ سب سے طاقتور اور خوب حکمت والا ہے۔<sup>①</sup>

لہذا اگر اللہ چاہے گا تو ہتلر کو دوزخ کی آگ میں تا ابد جلا یا جاتا رہے گا۔

### اچھائی یا برائی کا تصور

اس پوری بحث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی شخص کو آخرت یا موت کے بعد کی زندگی کے تصور کا قائل یہ بغیر انسانی اقدار اور اعمال کے اچھے یا بُرے ہونے کے تصور کا قائل نہیں کیا جاسکتا، بالخصوص جب وہ با اثر اور طاقتو ر بھی ہو۔<sup>①</sup>

آخرت کے تصور کے لیے قرآن نے جا بجا مردؤں کو زندہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ حیوانات اور نباتات کے دوبارہ زندہ ہونے کی مثالیں جگہ جگہ مذکور ہیں۔ سورہ بقرۃ میں پانچ مقامات پر مردؤں کے زندہ ہونے کا ذکر ہے جبکہ زمین کے مردہ (بُخْر) ہونے کے بعد اس کی دوبارہ زندگی ہر انسان کے مشاہدے میں ہے، لہذا قیامت کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے سے کوئی دانا اور سمجھدار انکار نہیں کر سکتا۔ (ادارہ)

## ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کس لیے؟

(Polygamy)

”اسلام میں ایک آدمی کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ یا اسلام میں مرد کو متعدد شادیوں کی کیوں اجازت ہے؟“

کثیر ازدواجی یا تعدد ازدواج سے مراد شادی کا ایسا نظام ہے جس میں ایک شخص ایک سے زیادہ شریک زندگی رکھ سکتا ہے۔ کثیر ازدواجی دو قسم کی ہے: ① کثیر ازدواجی زنانہ: جس میں ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ ② کثیر ازدواجی مردانہ: جس میں ایک عورت ایک سے زیادہ شوہر رکھ سکتی ہے۔ اسلام میں محدود حد تک زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے جبکہ ایک عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔

### کثیر ازدواجی مختلف مذاہب میں

اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ اسلام ایک آدمی کو ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں دیتا ہے؟

قرآن دنیا میں واحد مذہبی کتاب ہے جس میں تحریر ہے: ”صرف ایک سے شادی کرو،“ کسی دوسری مذہبی کتاب میں یہ ہدایت نہیں کی گئی کہ صرف ایک بیوی رکھو۔ چاہے

ہندوؤں کے وید، رامائن، مہا بھارت یا گیتا ہوں، یا یہودیوں کی تالمود یا عیسائیوں کی باہل ہو، ان کتابوں کے مطابق ایک آدمی جتنی شادیاں چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ ہندو پنڈتوں اور عیسائی کلیسا نے بیویوں کی تعداد ایک تک محدود کر دی۔

بہت سی ہندو مذہبی شخصیات جن کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے، ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ رام کے باپ راجہ دسرتھ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، اسی طرح کرشن کی بہت سی بیویاں تھیں۔

شروع میں عیسائی مردوں کو بھی اجازت تھی کہ وہ جتنی چاہے بیویاں رکھ سکتے ہیں کیونکہ باہل میں بیویوں کی تعداد کے بارے میں کوئی پابندی نہیں۔ یہ تو محض چند صد بیوں پہلے ہوا کہ چدق نے بیویوں کی تعداد محدود کر کے ایک کر دی۔

یہودیت میں بھی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ یہودیوں کے تالموذی قانون کے مطابق حضرت ابراہیم ﷺ کی تین بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان ﷺ کی سیستکڑوں۔<sup>①</sup> کثیر ازوابی اس وقت تک جاری رہی جب ریبی گرشوم بن یہودا (960ء تا 1030ء) نے ایک فرمان کے ذریعے سے زیادہ شادیوں پر پابندی لگا دی مگر مسلم ممالک میں رہنے والے سیفاروی یہودیوں نے 1950ء تک اس پر عمل درآمد جاری رکھا حتیٰ کہ

① باہل کی اس بات کی تصدیق درج ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے: ”حضرت ابو ہریرہ رض کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج رات اپنی نوے بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان میں سے ہر ایک، ایک سوار جنے کی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ کے کسی ساتھی نے کہا: ان شاء اللہ کہیں مگر انہوں نے یہ نہ کہا تو ان میں سے کوئی بھی حاملہ نہ ہوئی سوائے ایک کے، اور اس نے بھی ادھورا پچھے جنا۔ اس پروردگار کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے! اگر وہ ان شاء اللہ کہہ لیتے تو سب کے ہاں بچے ہوتے اور وہ سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔“ (صحیح البخاری، الأیمان والنذور، باب کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: 6639)

اسرائیل کے دفتر پیشوائے اعلیٰ (Chief Rabbinate) نے ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی کا دائرہ بڑھادیا۔

دیچپ بات یہ ہے کہ 1975ء کی بھارتی مردم شماری میں یہ بات سامنے آئی کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کی نسبت زیادہ شادیاں کی ہیں۔ ”کمیٹی برائے اسلام میں عورت کا مقام“، کی رپورٹ جو 1975ء میں شائع ہوئی اس کے صفحات 66-67 میں بتایا گیا کہ 1961ء سے 1991ء تک کے دوران میں ایک سے زیادہ شادیوں کے لیے ہندوؤں کا تناسب 5.06% جبکہ مسلمانوں کا 4.31% تھا۔ بھارت کے قانون کے مطابق صرف مسلمانوں کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ وہاں کسی غیر مسلم کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا غیر قانونی ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ غیر قانونی ہے، مسلمانوں کی نسبت ہندو زیادہ بیویاں رکھتے ہیں۔ پہلے بھارت میں بیویوں کی زیادہ تعداد کے بارے میں پابندی نہ تھی۔ 1954ء میں جب بھارت میں شادی کا قانون (میرج ایکٹ) پاس کیا گیا تو ہندوؤں کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا غیر قانونی قرار پایا (یہ بات قانون میں ہے لیکن ہندو مذہب کی کسی کتاب میں نہیں)۔

اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں دیتا ہے؟

### قرآن مجید و تعداد میں عورتوں سے شادی کی اجازت دیتا ہے

جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ قرآن کرہ ارض پر واحد کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ ”صرف ایک سے شادی کرو۔“ قرآن عظیم کی سورۃ النساء میں اس بات کو اس پیرائے میں بیان کیا گیا ہے:

﴿فَإِنِّكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خَفَقْتُمْ أَلَا نَعْلَمُ

فَوَحْدَةً﴾

## ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کس لیے؟

”چنانچہ تم ان عورتوں سے شادی کرو جو تمھیں اچھی لگیں دو دو، تین تین یا چار چار (عورتوں) سے، لیکن اگر تم کو اس کا خوف ہو کہ تم (ان کے ساتھ) انصاف نہ کر سکو گے تو صرف ایک سے (ناح کرو)۔“<sup>①</sup>

نزلہ قرآن سے پہلے شادیوں کی تعداد محدود نہ تھی اور کئی مرد بیویوں بیویاں رکھتے تھے۔ اور بعض کی تو سینکڑوں بیویاں تھیں۔ لیکن اسلام نے بیویوں کی تعداد ۴ تک محدود رکھی ہے۔ اسلام مرد کو دو، تین یا چار عورتوں سے نکاح کی اجازت دیتا ہے بشرطیکہ وہ ان میں انصاف کر سکے۔

اسی سورت، یعنی سورۃ نساء کی ۱۲۹ ویں آیت کہتی ہے:

﴿وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾

”تم عورتوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے۔“<sup>②</sup>

اس لیے زیادہ شادیاں کرنا کوئی قانون نہیں بلکہ استثناء ہے۔ بہت سے لوگ یہ غلط نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں رکھے۔

حلت و حرمت کے اعتبار سے اسلامی احکام کی پانچ اقسام ہیں:

”فرض: یہ لازمی ہے اور اس کا نہ کرنا باعث سزا و عذاب ہے۔

”مستحب: اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر عمل کی ترغیب دی گئی ہے۔

”مباح: یہ جائز ہے، یعنی اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔

”مکروہ: یہ اچھا کام نہیں، اس پر عمل کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔

”حرام: اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا حرام ہے اور اس کا چھوڑنا باعث ثواب ہے۔

ایک سے زیادہ شادیاں کرنا مذکورہ احکام کے درمیانے درجے میں ہے۔ اس کی اجازت

① النساء: 3/129 ② النساء: 4/129

ہے لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایک مسلمان جس کی دو، تین یا چار بیویاں ہیں، اُس سے بہتر ہے جس کی صرف ایک بیوی ہے۔

### عورتوں کی اوسط عمر

قدرتی طور پر لڑکے اور لڑکیاں تقریباً برابر پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک بچی میں ایک بچے کی نسبت قوتِ مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بچی بیماریوں کا ایک بچے کی نسبت بہتر مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی عمر میں لڑکوں کی شرح اموات لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی طرح جنگلوں میں عورتوں کی نسبت مرد زیادہ ہلاک ہوتے ہیں۔ حادثات اور امراض کے باعث بھی عورتوں کی نسبت مرد زیادہ مرتے ہیں۔ عورتوں کی اوسط عمر بھی مردوں کی نسبت زیادہ ہے اور دنیا میں رنڈوے مردوں کی نسبت بیوہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔

### بھارت میں نسوانی جنین اور لڑکیوں کا قتل

بھارت اور اس کے ہمسایہ ممالک ان چند ممالک میں شامل ہیں جہاں عورتوں کی آبادی مردوں سے کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں بچپن ہی میں لڑکیوں کو ہلاک کرنے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں لاکھوں عورتیں حمل کے طبعی معاینے میں لڑکی کا علم ہونے پر استقطاب کروادیتی ہیں۔ اس طرح ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ بچیاں قبل از ولادت ہی موت کے گھاث اُتار دی جاتی ہیں۔ اگر اس سفارکی کو روک دیا جائے تو بھارت میں بھی عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہوگی۔

### عالمی سطح پر عورتوں کی آبادی مردوں کی نسبت زیادہ ہے

امریکہ میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت تقریباً 78 لاکھ زیادہ ہے۔ صرف نیویارک

میں عورتیں مردوں سے 10 لاکھ زیادہ ہیں، نیز مردوں کی ایک تہائی تعداد ہم جنس پرست ہے۔ مجموعی طور پر امریکہ میں ہم جنس پرستوں کی تعداد اڑھائی کروڑ ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو عورتوں سے شادی کی خواہش نہیں، اسی طرح برطانیہ میں عورتوں کی تعداد مردوں سے 40 لاکھ زیادہ ہے۔ جمنی میں مردوں کی نسبت عورتیں 50 لاکھ زیادہ ہیں، اسی طرح روس میں بھی مردوں کے مقابلے میں عورتیں 90 لاکھ زیادہ ہیں۔ فی الجملہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں مجموعی طور پر خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت کتنی زیادہ ہے۔

### ہر مرد کو صرف ایک شادی تک محدود رکھنا ناقابل عمل ہے

اگر ایک مرد صرف ایک عورت سے شادی کرے تو بھی امریکہ میں تین کروڑ عورتیں بے شوہر ہیں گی (یہ بات پیش نظر رہے کہ اڑھائی کروڑ امریکی مرد ہم جنس پرست ہیں۔) اسی طرح 40 لاکھ برطانیہ میں، 50 لاکھ جمنی میں اور 90 لاکھ روس میں ایسی عورتیں ہوں گی جنہیں خاوند نہیں مل سکے گا۔

فرض کریں کہ میری بہن امریکہ میں رہنے والی غیر شادی شدہ خواتین میں سے ہے یا فرض کریں آپ کی بہن وہاں اس حالت میں رہ رہی ہے۔ اس مسئلے کے صرف دو حل ہیں کہ یا تو وہ کسی شادی شدہ مرد سے شادی کرے یا پھر ”پلک پر اپرٹی“ (اجتماعی ملکیت) بنے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ جو عورتیں نیک ہیں وہ یقیناً پہلی صورت کو ترجیح دیں گی۔ بہت سی خواتین دوسری عورتوں کے ساتھ اپنے شوہر کی شرکت پسند نہیں کرتیں۔ لیکن اسلامی معاشرے میں جب صورتحال گبھر اور پیچیدہ ہوتا ایک صاحب ایمان عورت اپنا معمولی ذاتی نقصان برداشت کر سکتی ہے مگر اس بڑے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اُس کی دوسری مسلمان بہنیں ”پلک پر اپرٹی“، یعنی اجتماعی ملکیت بن کر رہیں۔

شادی شدہ مرد سے شادی اجتماعی ملکیت بننے سے بہتر ہے۔ مغربی معاشرے میں عام طور پر ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں سے بھی جنسی تعلقات رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں عورت ہنگ آمیز زندگی بسر کرتی اور عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے۔ دوسری طرف یہی معاشرہ ایسے مرد کو جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں قبول نہیں کرتا، حالانکہ اس تعداد ازواج کی صورت میں عورت پوری عزت اور حفاظت کے ساتھ نہایت باوقار زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اس طرح عورت کے سامنے دور است رہ جاتے ہیں: یا تو وہ شادی شدہ مرد سے شادی کرے یا ”اجتماعی ملکیت“ بن جائے۔ اسلام پہلی صورت کو ترجیح دیتے ہوئے اسے باعزت مقام دلاتا ہے اور دوسری صورت کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اسباب ہیں جن کے پیش نظر اسلام مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ ان اسباب میں اصل اہمیت کی چیز عورت کی عزت و ناموس ہے جس کی حفاظت اسلام کے نزدیک فرض اور لازم ہے۔

[WWW.DEENEKHALIS.COM](http://WWW.DEENEKHALIS.COM)

[WWW.RAHEHAQ.COM](http://WWW.RAHEHAQ.COM)

[WWW.ESNAPS.COM/USER/TRUEMASLAK](http://WWW.ESNAPS.COM/USER/TRUEMASLAK)

یہ کتب خرید کر دوسریں تک زیادہ سے زیادہ تعداد  
میں پھیلائ کر دین اسلام سے کچھی تجربت کا عملی ثبوت  
حریجیہ

## ایک سے زیادہ شوہروں کی ممانعت کیوں؟

(Polyandry)

”اگر اسلام ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دیتا ہے تو وہ ایک عورت کو ایک سے زیادہ شوہر کھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟“

بہت سے لوگ جن میں بعض مسلمان بھی شامل ہیں اس امر کی دلیل مانگتے ہیں کہ جب ایک مسلمان مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو یہی ”حق“ عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟

سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد عدل اور مساوات ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو برابر پیدا کیا ہے لیکن مختلف صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ۔ مرد اور عورت جسمانی اور نفسیاتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے کہ ان کے کردار اور ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں۔ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں لیکن ہو بھاؤ ایک جیسے نہیں۔

سورہ نساء کی آیات 22 تا 24 میں ان عورتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن سے مسلمان مرد شادیاں نہیں کر سکتے، مزید برآں آخری آیت 24 کے مطابق ان عورتوں سے بھی شادی منوع ہے جو ”شادی شدہ“ ہوں۔ مندرجہ ذیل نکات یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو ایک سے زیادہ مرد رکھنے سے کیوں روکتا ہے:

① اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان سے پیدا ہونے والے بچوں کے ماں باپ کی آسانی سے شناخت ممکن ہے۔ اس صورت میں بچے کی ماں اور باپ کی پیچان ہو سکتی ہے۔ ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی صورت میں پیدا ہونے والے بچوں کی ماں تو معلوم ہوتی ہے مگر باپ کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اسلام ماں اور باپ دونوں کی پیچان کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ماہرینِ نفسیات کے نزدیک جو بچے اپنے والدین کو نہیں جانتے، خاص طور پر اپنے باپ کو، وہ بہت زیادہ ڈھنی تکلیف، بے چینی اور کشمکش کا شکار ہوتے ہیں اور اکثر ایسے بچوں کا بچپن ناخوشنگوار ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ طوالغou کے بچوں کا بچپن صحت منداور خوشنگوار نہیں ہوتا۔ ایسے تعلق سے پیدا ہونے والے بچے کو جب اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے اور اس وقت ماں سے اس کے باپ کا نام پوچھا جاتا ہے تو اسے دو یا اس سے زیادہ ناموں کا حوالہ دینا پڑتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ موجودہ سائنسی ترقی کی بدولت جیں ٹیکٹ کے ذریعے سے ماں اور باپ کی شناخت ہو سکتی ہے، اس لیے یہ نکتہ جو ماضی میں موثر تھا ممکن ہے کہ اب نہ ہو لیکن بچوں کے ناخوشنگوار بچپن اور ان کی ڈھنی تکلیف کا مسئلہ بدستور برقرار رہتا ہے اور یہ وراثت، یعنی باپ کی جائیداد وغیرہ کی تقسیم کے مسئلے میں بھی پیچیدگی کا باعث بنتا ہے۔

② مرد فطری طور پر عورتوں کی نسبت متعدد شادیوں کا زیادہ خواہشمند ہوتا ہے۔

③ جسمانی یا حیاتیاتی طور پر ایک مرد کے لیے کئی بیویاں رکھنے کے باوجود اپنے فرائض انجام دینا آسان ہوتا ہے جبکہ ایک عورت کے لیے جو ایک سے زیادہ شوہر رکھتی ہو بحیثیت بیوی اپنی ذمہ داریاں بھانا ہرگز ممکن نہیں۔ ایک عورت ہر ماہواری کے دوران میں بہت سی نفسیاتی اور مزاج کی تبدیلیوں سے گزرتی ہے۔

④ ایک عورت جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں، اسے بیک وقت ایک سے زیادہ مردوں سے جنسی تعلقات رکھنے پڑیں گے تو اس کو بہت سی جنسی بیماریاں لگ سکتی ہیں جو وہ اپنے

کسی شوہر کو منتقل کر سکتی ہے، چاہے اس کے تمام شوہروں کے دوسرا خواتین سے غیر ازدواجی تعلقات نہ بھی ہوں لیکن یہ صورت حال مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں پیش نہیں آتی۔

یہ تمام وہ ظاہری وجہ ہیں جن کا آسانی سے علم ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے اور بھی بہت سی وجہوں جن کا علم داناے راز، اللہ تعالیٰ علیم و جبیر ہی کو بہتر طور پر ہو کہ اس نے عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے سے کیوں منع کیا ہے۔<sup>①</sup>

۱) اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ اور نگران بنایا ہے۔ وہ خاوند کی اولاد اور گھر کی دلکھ بھال کرتی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک سے زیادہ گھروں کی دلکھ بھال کر سکے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ مرد کے اندر ایک فطری غیرت ہے، جو ہر سلیم الفطرت شخص کے اندر پائی جاتی ہے، کہ یہوی کے معاملے میں وہ کسی کی شرآکت برداشت نہیں کرتا۔ یہ غیرت نہ صرف انسانوں میں ہے بلکہ حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں شرآکت برداشت نہیں کرتے۔ جیسا کہ امام بخاری رض نے عمرو بن میمون کے حوالے سے بندروں کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رض نے فتح الباری میں اسے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں میں میں ایک میلے پر اپنے خاندان کی بکریاں چاراں ہاتھا کہ ایک بندرا اور بندریا وہاں آئے۔ بندر نے بندریا کا بازاوائپے سر کے نیچے رکھا اور سو گیا۔ اس دوران ایک اور بندر آیا اور اس نے بندریا کو بہکایا اور وہ اس کے ساتھ چل گئی اور توھڑا دور جا کر انہوں نے بدکاری کی، پھر بندریا واپس آئی اور اپنا ہاتھ بندر کے سر کے نیچے واپس کرنا چاہا تو وہ جاگ آٹھا۔ اس نے اسے سوگھا اور چلانے لگا۔ کئی بندرا کٹھے ہو گئے، وہ مسلسل چلائے جا رہا تھا اور اس بندریا کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ بندرا دھرا دھر گئے اور اس بندر کو لے آئے جس نے بدکاری کی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کے لیے ایک گڑھا کھودا اور انہیں رجم کر دیا۔ (فتح الباری: 7/202، حدیث: 3859) اسی طرح خزیر کے علاوہ تمام جانوروں میں یہ غیرت کی حس موجود ہے۔ جب حیوان برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی مؤاثت کو کوئی اور زخمی کرے تو انسان اپنی شریک حیات میں شرآکت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ (عنان نیب)

## کیا حجاب عورت کا استھصال نہیں؟

”اسلام عورت کو پردے میں رکھ کر اس کی حیثیت کیوں گھٹاتا ہے؟“

سیکولر میڈیا میں اسلام میں عورت کی حیثیت کو اکثر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حجاب یا اسلامی لباس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عورت اسلامی شریعت کی حکوم اور باندی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسلام کے حجاب کے حکم کا تجزیہ کریں، ہمیں اسلام سے پہلے کے معاشروں میں عورت کی حیثیت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔

### زمانہ قدیم میں عورت کی حیثیت

تاریخ سے لی گئی درج ذیل مثالیں واضح کرتی ہیں کہ قدیم تہذیبوں میں عورت کی حیثیت نہایت بے وقعت تھی اور اسے محض شہوانی جذبات کی تسلیم کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا حتیٰ کہ اسے بنیادی انسانی شرف و عزت سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔

■ بابل کی تہذیب: اس تہذیب میں عورتوں کو گھلیا سمجھا جاتا اور بابلی قوانین کے تحت وہ تمام حقوق سے محروم تھیں۔ اگر ایک آدمی قتل کا مرتكب ہوتا تو بجائے اس کے کہ اُسی کو سزا ملے، اس کی بیوی کو بھی موت کے گھاث اتار دیا جاتا تھا۔

■ یونانی تہذیب: یونانی تہذیب کو قدیم تہذیبوں میں بہترین اور شاندار تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ اس ”شاندار“ تہذیب میں عورت تمام حقوق سے محروم تھی اور اسے حقیر سمجھا جاتا تھا۔ یونانی دیو مالائی کہانیوں میں ایک خیالی عورت ہے ”پنڈورا“ کہا جاتا تھا، اُسے انسانوں کی بقدمتی کی بنیادی وجہ خیال کیا جاتا تھا۔ یونانی لوگ عورت کو مرد سے بہت کتر سمجھتے تھے۔ اگرچہ عورت کی دو شیزگی کو قیمتی سمجھا جاتا اور عورتوں کو اس حوالے سے خاصی اہمیت دی جاتی تھی لیکن بعد میں یونانی تہذیب پر بھی اتنا نیت اور جنسی بے راہ روی چھاؤئی اور اس تہذیب میں ذوق طوائفیت عام ہو گیا۔

■ رومی تہذیب: جب روی تہذیب اپنی ”عظمت“ کی بلندیوں پر تھی، ایک مرد کو یہ اختیار بھی حاصل تھا کہ وہ اپنی بیوی کی جان لے سکتا تھا۔ طوائف بازی اور عریانیت اس معاشرے میں عام تھی۔

■ مصری تہذیب: یہ تہذیب عورت کو مجسم برائی سمجھتی اور اُسے شیطنت کی علامت گردانی تھی۔

■ اسلام سے پہلے عرب کی تہذیب: عرب میں اسلام آنے سے پہلے عورت کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا اور جب لڑکی پیدا ہوتی تو اُسے بالعموم زندہ فن کر دیا جاتا۔

### اسلام نے عورت کو مساوی درجہ دیا

اسلام نے عورت کو برابری کا درجہ دیا، اس کے حقوق کا تعین 1400 سال پہلے کر دیا اور وہ تو قع کرتا ہے کہ عورت اپنا یہ درجہ برقرار رکھے۔

### مردوں کا حجاب

لوگ عام طور پر ”حجاب“ کو عورتوں کے ناظروں میں زیر بحث لاتے ہیں لیکن قرآن عظیم میں

الله تعالیٰ مردوں کے حجاب کو عورتوں کے حجاب سے پہلے بیان کرتا ہے۔ سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُونَ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَنَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (۳۰)

”اور ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے جو کام تم کرتے ہو۔“<sup>①</sup>

لہذا جب ایک مرد کی نگاہ کسی غیر محروم خاتون پر پڑے تو اسے اپنی نظر جھکایتی چاہیے۔

### عمر قل کا حجاب سر

سورہ نور کی اگلی آیت میں ہے:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُونِهِنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ إِبَابِهِنَّ أَوْ إِبَكَاءَ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَابِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ بَنِيَّ أَخَوَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكْتَ أَيْمَنَهُنَّ أَوِ التَّتِيْعَيْنَ غَيْرِ أُولَى الْإِرَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْطَّفَلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوَرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَنْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُمْ الْمُؤْمِنُوْرُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ﴾ (۳)

”اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں پنجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے سنگار کی نمائش نہ کریں، سوائے اس کے جو (از خود) ظاہر ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنے سنگار کی نمائش نہ کریں، مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے (سو تیلے) بیٹوں پر، اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی (مسلمان) عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت (کنیزوں) پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکر مردوں پر یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی چھپی بالوں سے واقف نہ ہوں۔<sup>①</sup>

### حجاب کا معیار

قرآن اور سنت کے مطابق پردے کے لیے چھ بنیادی معیار ہیں:

پہلا معیار یہ ہے کہ جسم کو مکمل طور پر ڈھانپنا چاہیے۔ یہ عورتوں اور مردوں کے لیے مختلف ہے۔ مرد کے لیے یہ معیار ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے جبکہ عورتوں کے لیے تمام جسم کا ڈھانپنا لازم ہے سوائے چہرے اور کلائی تک ہاتھوں کے۔ اور اگر ان کی خواہش ہو تو جسم کے ان حصوں کو بھی ڈھانپ سکتی ہیں۔ بعض علمائے کرام کے نزدیک ہاتھ اور چہرہ بھی لازمی پردے میں شامل ہیں۔ (اور یہی بات راجح ہے)

علاوہ اذیں مردوں اور عورتوں کے لیے حجاب کے پانچ یکساں معیار ہیں:

- کپڑے جو پہننے جائیں وہ ڈھیلے ڈھالے ہوں جو جسمانی اعضا کو نمایاں نہ کریں۔
- کپڑے اتنے باریک نہ ہوں کہ ان میں سے سب کچھ نظر آئے یا آسانی سے دیکھا جاسکے۔

- لباس اتنا شوخ نہ ہو کہ جنس مخالف کو متوجہ کر سکے۔
- لباس ایسا نہ ہو جو جنس مخالف کے مشابہ ہو (یعنی عورتیں مردوں جیسے کپڑے نہ پہنیں اور مردوں کو چاہیے کہ عورتوں جیسا لباس نہ پہنیں)
- لباس غیر مسلموں کے لباس سے مشابہ نہ ہو، یعنی ایسا لباس نہ پہنیں جو غیر مسلموں کی مذہبی شناخت اور مخصوص علامت ہو۔

### حجاب میں اخلاق اور صحیح طرزِ عمل بھی شامل ہیں

مکمل حجاب میں ان چھ بنیادی معیاروں کے علاوہ اخلاقی کردار، سماجی رویے، وضع قطع اور شخصی ارادے کا بھی دخل ہے۔ حجاب کو صرف لباس کے معیار کی حد تک سمجھنا محدود سوچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں، دل، سوچ اور ارادے اور نیت کا حجاب بھی ضروری ہے۔ اس میں انسان کے چلنے کا طریقہ، گفتگو کا سلیقہ اور رویے کا اظہار بھی شامل ہے۔

### حفلاتی حصار

حجاب چھیٹر چھاڑ سے بچاتا ہے۔ آخر عورت کے لیے پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ سورہ الاحزاب میں بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَتَآءِهَا النِّسَاءُ قُلْ لَا زَرْفِجَكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَّ نِسَاءِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَ فَلَا يُؤْذِنُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾۵۹﴾

”اے بنی! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مونوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ (گھر سے باہر) اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلوگرا لیا کریں۔ یہ (بات) ان کے لیے قریب تر ہے کہ وہ (حیادار مونات کے طور پر) پہچانی جاسکیں اور انھیں ایذا نہ

دی جائے (کوئی چھیٹر چھاڑ نہ کر سکے) اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔<sup>①</sup>

قرآن سے واضح ہے کہ عورتوں کو پردے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ باحیا عورتوں کی حیثیت سے پہچانی جائیں اور مردوں کی شرارتؤں اور چھیٹر خانیوں سے محفوظ رہیں۔

### مغرب میں عورت کا استھصال سر

مغربی تہذیب عورت کی جس آزادی اور آزاد خیالی کی بلند آنگ و کالت کرتی ہے وہ اس کے جسمانی استھصال، اس کی روحانی تحریر اور اس کی عزت کی بر بادی کے سوا کچھ نہیں۔ مغربی تہذیب عورت کا درجہ بلند کرنے کا بڑا چرچا کرتی ہے لیکن حقیقت اس کے عکس ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب نے عورت کی عزت کو پامال کر دیا ہے۔ اُسے عورت کے شرف و منزلت سے گرا دیا ہے، اُسے داشتہ اور محبوہ بنا دیا ہے۔ مغربی تہذیب میں عورت، عورت نہیں ہے، نگین قتلی ہے، حصول لذت کا حکلونا ہے۔ مغرب نے عورت کو نیلام کا مال بنادیا ہے۔ نام نہاد ”فن“ اور ”ثقافت“ کی آڑ میں عورت کا شرمناک استھصال کیا جا رہا ہے۔

### امریکہ میں ریپ سر

امریکہ کو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے لیکن دنیا بھر میں عورتوں کی سب سے زیادہ آبروریزی بھی وہیں ہوتی ہے۔ ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں صرف 1990ء میں روزانہ عصمت دری کے اوسٹا 1756 مقدمات درج ہوئے۔ بعد کی ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکہ میں روزانہ تقریباً 1900 کی اوسط سے عصمت دری کے واقعات

پیش آئے۔ سال نہیں بتایا گیا، ہو سکتا ہے 1992ء یا 1993ء ہو، مزید برآں ہو سکتا ہے اس کے بعد امریکی جری بدکاریوں میں اور زیادہ مذر ہو گئے ہوں۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے: میں آپ کے سامنے امریکہ کا ایک منظر پیش کرتا ہوں جہاں مسلم خاندانوں میں پردہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کسی عورت کو پردے میں یا اسلامی حجاب میں بُری نگاہ سے دیکھتا ہے یا کوئی شرمناک خیال اُس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اپنی نگاہ پیچی کر لیتا ہے۔ ہر عورت اسلامی حجاب پہنتی ہے جس میں اس کا تمام جسم ڈھکا ہوا ہے سوائے چہرے اور کلائی تک ہاتھوں کے۔ اس کے بعد اگر کوئی زنا بالجبر کرتا ہے تو اسے سزا موت دی جاتی ہے۔<sup>①</sup>

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس پس منظر میں امریکہ میں عصمت دری کے واقعات بڑھیں گے، اسی طرح رہیں گے یا کم ہو جائیں گے؟

### اسلامی شریعت کا نفاذ

فطري طور پر اسلامی شریعت کا نفاذ ہوتے ہی ثابت متاخر ناگزیر ہوں گے۔ اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں چاہے وہ امریکہ ہو یا یورپ، اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جائے تو معاشرہ سکون کا سانس لے گا۔ اسلامی حجاب عورت کا مرتبہ کم نہیں کرتا بلکہ اونچا کرتا ہے اور اس کی حیاداری اور پاکداری کی حفاظت کا ضامن ہے۔

① زنا کی سزا کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

## مرد اور عورت کی گواہی میں مساوات کیوں نہیں؟

”دوعروتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر کیوں ہے؟“

دوعروتوں کی گواہی ہمیشہ ایک مرد کی گواہی کے برابر نہیں۔ قرآن مجید میں تین آیات ہیں جن میں مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر گواہی کے احکام آئے ہیں:

﴿ وَرَاثَتْ كَمْ مُتَّلِقْ وَصِيتْ كَمْ كَرْتْ وَقْتْ دَوْعَادِلْ اشْخَاصْ كَيْ گواهِيْ كَيْ ضَرُورَتْ هَوتِيْ ہے۔ ﴾

سورہ مائدہ میں قرآن عظیم کہتا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا شَهَدَةً بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةُ أَشْنَانِ ذَوَا عَدَلِ مِنْكُمْ أَوْ أَخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرِيْبُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَأَصْبِرَتُكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ﴾

”اے ایمان والو! جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، ترکے کی وصیت کے وقت دو انصاف والے اپنے (مسلمانوں) میں سے گواہ بنالو یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلو اور (راستے میں) موت کی مصیبت پیش آجائے تو غیر قوم کے دو (گواہ بھی کافی ہوں گے) ①

■ طلاق کے معاملے میں دو عادل اشخاص کو گواہ بنانے کا حکم ہے۔

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَدَةَ لِلَّهِ﴾

”اور تم اپنے میں سے دو اشخاص کو گواہ بنالو جو عادل ہوں اور اللہ کے لیے گواہی دو۔“<sup>①</sup>

■ پاکباز عورت کے خلاف گواہی کے لیے چار شہادتیں درکار ہیں:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شَهَدَاءَ فَاجْحِلُّوهُنَّ ثَمَنِينَ جَلَدَةً وَلَا  
نَقْبِلُوا لَهُنْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَنِسِقُونَ ﴾<sup>④</sup>

”اور جو لوگ پاکباز عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر وہ چار گواہ پیش نہ کر سکیں (اپنے الزام کی تصدیق میں) تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔“<sup>②</sup>

### مالی میں دین میں عورت کی گواہی

یہ صحیح نہیں کہ ہمیشہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی۔ یہ صرف چند معاملات کے لیے ہے۔ قرآن میں 5 آیات ہیں جن میں گواہی کے بارے میں مرد اور عورت کی تخصیص کے بغیر حکم دیا گیا ہے۔ اور صرف ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 282 ہے۔ مالی معاملات کے متعلق یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَّنْتُم بِدَيْنِ إِلَّا أَجْكِلِ مُسَكِّمَ فَأَكْتُبُو  
وَلَيَكُتبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْمَكْذُلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُتبَ كَمَا عَلِمَهُ  
اللَّهُ فَلَيَكُتبَ وَلَيُمَلِّكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَسْقِي اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ

شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ سَفِيهًآ أَوْ ضَعِيفًآ فَلَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُعْلَمَ هُوَ فَلَيُعْلَمْ لَوْلَيْهِ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَ تَكَانِ مِمَّا تَرَضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِيلَ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴿٤﴾

”اے ایمان والو! جب تم ایک مقررہ مدت کے لیے ایک دوسرے سے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف سے لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے، اور وہ شخص لکھوانے جس کے ذمے قرض ہو اور اسے اپنے رب، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور (لکھوانے وقت) وہ (مقروض) اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے۔ لیکن اگر وہ فرد جس کے ذمے قرض ہو، نادان یا ضعیف ہو یا لکھوانہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوانے۔ اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے دو گواہ بنالو، پھر اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو (یہ اس لیے) کہ ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے دوسری اُسے یاد دلادے۔<sup>①</sup>“

قرآن کی یہ آیت صرف مالی معاملات اور لین دین کے لیے ہے۔ اس قسم کے معاملات میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ معابدے کو دونوں فریقوں کے مابین لکھا جائے اور دو گواہ بنائے جائیں اور یہ کوشش کی جائے کہ وہ صرف مرد ہوں۔ اگر دو مرد نہ مل سکیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں کافی ہیں۔

اسلامی شریعت میں مالی معاملات میں دو مردوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسلام مرد سے خاندان کی کفالت کی توقع کرتا ہے۔ چونکہ اقتصادی ذمہ داری مردوں پر ہے، اس لیے یہ

توقیع کی جاتی ہے کہ وہ لین دین میں عورتوں کی نسبت زیادہ علم و آگہی رکھتے ہیں۔ دوسری صورت میں ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں گی کہ اگر ایک غلطی پر ہو تو دوسری اُسے یاد دلا دے۔ قرآن میں عربی لفظ **(تَضِيلٌ)** کا مطلب ہے ”غلطی پر ہونا“ یا ”بھول جانا“۔ یوں صرف مالی معاملات میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر رکھی گئی ہے۔

## قرآن کے مقدمات میں نسوانی گواہی

اس کے برعکس کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ عورتوں کی شہادت قتل کے معاملے میں بھی دو ہری ہے، یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ اس قسم کے معاملات میں عورت، مرد کی نسبت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی جذباتی حالت کی وجہ سے پریشان ہو سکتی ہے، اسی لیے کچھ لوگوں کے نزدیک قتل کے مقدمات میں بھی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔

کچھ علماء کے نزدیک دو عورتوں اور ایک مرد کی گواہی کی برابری تمام معاملات کے لیے ہے، اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سورہ نور میں ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمَوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَا يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُمْ أَحَدِهِمْ أَزْبَعُ شَهَدَتِهِ بِإِلَهِهِ إِنَّمَا لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑥ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ⑦ وَيَدْرُوْنَ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشَهَّدَ أَزْبَعُ شَهَدَاتِهِ بِإِلَهِهِ إِنَّمَا لَمِنَ الْكَذَّابِينَ ⑧ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ غَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑨﴾

”اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو سوائے ان کی اپنی ذات کے، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ چار بار اللہ کی قسم

کھا کر کہے کہ بے شک وہ پچوں میں سے ہے۔ اور پانچویں بار یہ کہے: اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس عورت سے سزا تبلیغی ہے کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلاشبہ وہ (اس کا شوہر) جھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ (شوہر) پچوں میں سے ہو تو اس (عورت) پر اللہ کا غضب ہو۔<sup>①</sup>

### حضرت عائشہؓ کی گواہی کسر

حضرت عائشہؓ سے، جو ہمارے نبی ﷺ کی بیوی تھیں، کم و بیش 2220 کے قریب احادیث مردی ہیں جو صرف ان کی واحد شہادت کی بدولت مستند ہیں۔ یہ اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ صرف ایک عورت کی گواہی بھی قبول کی جاسکتی ہے۔

بہت سے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ایک عورت کی گواہی پہلی رات کا چاند دیکھنے کے لیے بھی کافی ہے۔ اندازہ کریں کہ روزہ رکھنے کے لیے جو اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، ایک عورت کی گواہی کافی ہے اور اس کی گواہی پر تمام مسلمان مرد اور عورتیں روزہ رکھتے ہیں۔ کچھ فقہاء کے نزدیک آغازِ رمضان کے سلسلے میں ایک گواہی درکار ہے جبکہ اس کے ختم ہونے کے لیے دو گواہیاں ضروری ہوں گی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گواہی دینے والے مرد ہوں یا عورتیں۔

### بعض معاملات میں عورتوں ہی کی گواہی کو ترجیح حاصل ہے کسر

بعض معاملات میں صرف خاتون گواہ درکار ہوتی ہے، مثال کے طور پر عورتوں کے مسائل۔ عورت کی مدفین کے وقت غسل کے معاملات میں صرف عورت ہی کی گواہی مستند ہوگی۔ ایسے

معاملات میں مرد کی گواہی قبول نہیں کی جاسکتی۔

مالي معاملات میں مرد اور عورت کی گواہیوں میں نظر آنے والی عدم مساوات اسلام کے نزدیک کسی صفائی عدم مساوات کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ صرف معاشرے میں عورتوں اور مردوں کی مختلف نویعت اور مختلف کرداروں کی بنا پر ہے جو اسلام نے ان کے لیے متعین کیے ہیں۔

WWW. DEENEKHALIS. COM  
WWW. RAHEHAQ. COM

## اسلام کا نظامِ وراثت غیر منصفانہ کیوں؟

”اسلامی قوانینِ وراثت میں عورت کا حصہ مرد کی نسبت آدھا کیوں ہے؟“

قرآن عظیم میں بہت سی آیات ہیں جن میں ورثے کی جائز تقسیم سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، مثلاً:

(1) سورہ بقرہ آیات: 180 اور 240

(2) سورہ نساء آیات: 7-9 اور آیات 19 اور 33

(3) سورہ مائدہ آیات: 106 تا 108

### رشتہ داروں کا وراثت میں مخصوص حصہ

قرآن مجید میں 3 آیات ہیں جو واضح طور پر قریبی رشتہ داروں کے وراثت میں مقررہ حصے بیان کرتی ہیں، جن میں سے دو درج ذیل ہیں:

﴿يُوصِيكُهُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنثَيَّنَ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَقَ أَثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يَبْوَيْهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ

وَوَرِثَهُ، أَبَوَاهُ فَلِإِمْرَأِهِ أَثْلَاثٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِإِمْرَأِهِ الْشَّدُّسٌ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءَابَاءَ وَكُمْ وَأَبْنَائَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَفَرُبْ لَكُمْ  
نَفْعًا فِي ضَكَّةٍ مِنْ أَنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا  
تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَوْ يَكُنْ لَهُنْ بْرَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
أَرْبُعٌ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنْ  
أَرْبُعٌ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  
فَلَهُنَّ أَلْثَمُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِنْ  
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ أُمْرَأًا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فِلْكُلٌ وَاحِدٌ  
مِنْهُمَا الْشَّدُّسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَاءُ فِي الْثَّلِاثَةِ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيهِ حَلِيمٌ ۝

”اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدُ اُولَادَ كَمْ مُتَعْلِقٌ وَصِيَّتٌ كُرْتَاتٌ ہے: مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے  
کے برابر ہے۔ پھر اگر (دویا) دو سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے ترکے میں  
دو تہائی حصہ ہے۔ اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ، اور اس (مرنے  
والے) کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں چھٹا حصہ ہے اگر اس کی  
اولاد ہو، لیکن اگر اس کی اولاد نہیں اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں  
کے لیے تیرا حصہ ہے اور اگر اس کے (ایک سے زیادہ) بھائی بہن ہوں تو اس کی  
ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ (تَقْسِيم) اس کی وصیت پر عمل یا قرض کی ادائیگی کے  
بعد ہوگی۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین یا اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تمہارے  
زیادہ قریب ہے۔ یہ (تَقْسِيم) اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ خوب جانے

والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا نصف حصہ ہے اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، لیکن اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا چوتھا حصہ ہے۔ (یہ تقسیم) ان کی وصیت پر عمل یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہو گی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، لیکن اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا آٹھواں حصہ ہے۔ (یہ تقسیم) تمہاری وصیت پر عمل یا ادائیگی قرض کے بعد ہو گی۔ اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو، اُس کا بیٹا ہونہ باپ، یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ لیکن اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ (یہ تقسیم) اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہو گی جبکہ وہ کسی کون قسان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے اور اللہ خوب جانے والا بڑے حوصلے والا ہے۔ ①

مزید فرمایا:

﴿يَسْتَفْتُونَكُمْ قُلْ أَللّٰهُ يُقْتَيِّكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَمْ وَلَدْ وَلَمْ وَلَدْ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الْثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يَبْيَنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ تَضْلُلُوا وَاللَّهُ يُكْلِلُ شَيْءًا عَلَيْمًا ﴾ ⑦

”(اے نبی! ) لوگ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجیے: اللہ ”کلالہ“ کے بارے میں حکم دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو

اس کا وراثت ہوگا۔ لیکن اگر بینیں دو (یا زیادہ) ہوں تو بھائی کے ترکے میں ان کے لیے دو تھائی ہے۔ اور اگر کئی بھائی بہن، مرد اور عورتیں (وارث) ہوں تو مرد کا حصہ دیورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گراہ نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے۔<sup>①</sup>

### عورت کا حصہ برابر بلکہ ”دو گنا“ بھی ہو سکتا ہے

وراثت کی اکثر صورتوں میں عورتوں کو مردوں سے نصف ملتا ہے، تاہم یہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اگر مرنے والے کے ماں باپ یا کوئی بیٹا بیٹی نہ ہوں لیکن اخیانی (ماں کی طرف سے سگے) بھائی اور بہن ہوں تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر مرنے والے نے بچہ چھوڑے ہوں تو ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ بعض صورتوں میں ایک عورت کو مرد کی نسبت دو گنا حصہ بھی مل سکتا ہے۔ اگر مرنے والی عورت ہو اور اس کے بچے اور بھائی بہن نہ ہوں اور اس کا شوہر اور ماں باپ وارث ہوں تو شوہر کو آدھی جائیداد جبکہ ماں کو تیسرا حصہ اور باپ کو باقی چھٹا حصہ ملے گا۔<sup>②</sup>  
اس معاملے میں بھی ماں کا حصہ باپ سے دو گنا ہے۔

### مردوں کی نسبت خواتین کا حصہ نصف کب ہے؟

یہ ٹھیک ہے کہ عام قاعدے کے مطابق عورتیں مرد کی نسبت وراثت میں آدھا حصہ لیتی

① النساء: 4/176

② علمائے وراثت کے نزدیک یہ مسئلہ ”عمر متنین“ کے نام سے معروف ہے اور اس میں متوفیہ کی ماں کو خاوند کا حصہ ادا کرنے کے بعد باقی ماں کا ایک تھائی ملتا ہے جبکہ باپ کو باقی ماں کا دو تھائی ملتا ہے جو عورت کے حصے سے دو گنا ہی ہے، ڈاکٹر صاحب موصوف کی رائے درست معلوم نہیں ہوتی۔ دیکھیے: ”فقہ المواريث“ و ”تفہیم المواريث“ استاذ فاروق اصغر صارم

ہیں، مثلاً درج ذیل صورتوں میں:

بیٹی کو وراثت میں بیٹھے سے نصف ملے گا۔

عورت کو آٹھواں حصہ ملے گا اور شوہر کو چوتھا، اگر مرنے والے اولیٰ کی اولاد ہو۔

عورت کو چوتھا حصہ اور شوہر کو آٹھا ملے گا اگر مرحوم امر حومہ کی اولاد نہ ہو۔

اگر مرنے والے کے ماں باپ یا اولاد نہ ہو تو بہن کو بھائی کے کل ترکے کا نصف ملے گا۔

### مروکا حصہ دو گناہ کیوں؟

اسلام میں خاندان کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ شادی سے پہلے باپ یا بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی رہائش، لباس اور دوسری مالی ضروریات پوری کرے اور شادی کے بعد یہ ذمہ داری شوہر یا بیٹھے کی ہے۔ اسلام مرد کو پابند کرتا ہے کہ وہ خاندان کی مالی ضروریات کا ذمہ دار ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اسے وراثت میں دو گناہ حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ڈیڑھ لاکھ روپیہ چھوڑ کر مر جائے جس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہو تو بیٹے کو ایک لاکھ اور بیٹی کو 50 ہزار میں گے۔ ایک لاکھ روپے جو بیٹے کو وراثے میں ملیں گے وہ ان میں خاندان کی کفالت کا ذمہ دار ہے۔ اور ہو سکتا ہے وہ خاندان پر تمام رقم یا یوں کہیے 80 ہزار روپے خرچ کر دے۔ یوں درحقیقت اسے وراثے میں سے بہت کم حصہ ملے گا، یعنی 20 ہزار روپے۔ دوسری طرف بیٹی جس کو 50 ہزار میں گے وہ کسی پر ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کی پابند نہیں۔ وہ تمام رقم خود رکھ سکتی ہے۔ کیا آپ وہ ایک لاکھ روپے لینے کو ترجیح دیں گے جن میں سے آپ کو 80 ہزار روپے یا زائد رقم اور وہ پر خرچ کرنی پڑے یا وہ 50 ہزار روپے لیں گے جو کمل طور پر آپ ہی کے ہوں؟

## شراب کی ممانعت میں کیا حکمت ہے؟

”شراب کا استعمال اسلام میں کیوں حرام کیا گیا ہے؟“

قدیم و قتوں سے شراب انسانی معاشرے کے لیے مصیبت اور عذاب کا باعث بنتی چلی آ رہی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں ان گنت انسانی جانیں اس اُم الخبائث کی نذر ہوتی ہیں اور لاکھوں انسان شراب نوشی کے نتیجے میں مصاب کا شکار ہوتے ہیں۔ معاشرے کے بہت سے مسائل کی جڑ یہی شراب خانہ خراب ہے۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح، بڑھتی ہوئی ذہنی بیماریاں اور لاکھوں کی تعداد میں ٹوٹنے والے گھر شراب ہی کی بناہ کاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

### قرآن میں شراب کی ممانعت

قرآن عظیم میں شراب کی ممانعت کا حکم مندرجہ ذیل آیت میں آیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ۹۰

”اے ایمان والو! شراب، جواہوں کے آستانے اور فال کے تیر سب گندے کام ہیں۔ ان سے بچوتا کشمکش کامیاب ہو جاؤ۔“<sup>①</sup>

## بائبل میں شراب کی ممانعت

بائبل میں شراب نوشی کو مندرجہ ذیل فقرات میں منع کیا گیا ہے۔ عہد نامہ عتیق کی کتاب امثال میں ہے:

”شراب ایک فربی مشروب ہے۔ بلا نوشی غصہ بناتا ہے۔ جو بھی اس کے فریب میں آتا ہے یا اُسے دیوانہ کر دیتی ہے۔“<sup>①</sup>

اور عہد نامہ جدید میں کہا گیا ہے:

”اور شراب میں دھنٹ نہ رہو۔“<sup>②</sup>

## شراب بدی کے خلاف مذاھاتی نظام کو معطل کرنے سے

انسان کے دل و دماغ میں بُرائی سے روکنے والا نظام ہوتا ہے جسے نفس لو امد کہتے ہیں۔ یہ نفس لو امد انسان کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے، مثلاً: ایک آدمی عام طور پر اپنے ماں باپ اور بڑوں سے بات کرتے وقت بُری زبان استعمال نہیں کرتا۔ اسے رفع حاجت کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو نفس لو امد اسے اور وہ کے سامنے ایسا کرنے سے روکتا ہے، اس لیے وہ بیت انخلاء جاتا ہے یا دُور جا کر اوٹ میں قضاۓ حاجت سے فارغ ہوتا ہے۔

جب ایک شخص شراب پیتا ہے تو اُسے بُرائی سے روکنے والا نظام خود ہی رُک جاتا ہے، چنانچہ وہ ایسی حرکات کرتا ہے جو اس کے خصائص میں شامل نہیں ہوتیں، مثال کے طور پر وہ شراب کے نشے میں بُری اور غلیظ زبان استعمال کرتا ہے مگر وہ اپنی غلطی محسوس نہیں کر سکتا، خواہ

① امثال: 1/20

② افسیوں کے نام خط: 18/5

وہ اپنے ماں باپ ہی سے مخاطب ہو۔ بہت سے شرابی اپنے کپڑوں میں پیشتاب بھی کر دیتے ہیں۔ وہ صحیح طریقے سے بات کر سکتے ہیں نہ ٹھیک طرح سے چل سکتے ہیں حتیٰ کہ مار پیٹ پر بھی اُتر آتے ہیں۔

### شراب خوری اور کبیرہ کنابوں کا ارتکاب

امریکی محکمہ انصاف کے یورڈ آف جسٹس کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں صرف 1996ء کے دوران میں زنا بالجبرا کے روزانہ 2713 واقعات پیش آئے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ان زانیوں میں اکثریت ان کی تھی جوار تکاب جرم کے وقت نئے میں مددوش تھے۔ عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کے زیادہ تر واقعات بھی مجرموں کی شراب نوشی کا نتیجہ تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق 8 فیصد امریکی محramat سے مباشرت کرتے ہیں، یعنی ہر بارہ میں سے ایک شخص اس گناہ میں ملوث ہے۔ ایسے تقریباً تمام واقعات میں کوئی ایک نئے میں ہوتا ہے یادوں۔

ایڈز جیسی خوفناک بیماری کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ شراب نوشی ہے۔

### کی خار شراب لشی

بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سماجی شرابی ہیں، یعنی کبھی کبھار موقع ملنے پر پی لیتے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بلا نوش نہیں اور صرف ایک یا دو جام پیتے ہیں، انھیں خود پر کثروں ہوتا ہے اور ان کو نہ نہیں ہوتا۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ شروع میں ہر بلا نوش سماجی شرابی ہوتا ہے۔ ایک بلا نوش بھی یہ سوچ کر شراب پینا شروع نہیں کرتا کہ وہ عادی شراب نوش بننا چاہتا ہے۔ کوئی بھی سماجی شرابی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کئی سال سے شراب پی رہا ہوں اور مجھے

اپنے آپ پر اتنا کنٹروں ہے کہ میں ایک دفعہ بھی نشے کا شکار نہیں ہوا۔

### چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافرگی ہوئی

فرض کریں کہ ایک ”سماجی شرابی“، صرف ایک دفعہ ضبط نفس کھوبیٹھتا ہے۔ نشے کی حالت میں وہ زنا بالجریا اپنی کسی محروم سے مباثرت کر گزرتا ہے۔ اس کے بعد وہ پچھتائے اور شمندہ بھی ہوت بھی احساس جرم ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا۔ زنا کا مرتكب اور اس کا شکار ہونے والی عورت دونوں کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

### حدیث میں شراب کی ممانعت

سنن ابن ماجہ کی کتاب نمبر: 30 میں شراب کی واضح حرمت آئی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَا تَشْرِبُ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ»

”شراب مت پیو۔ بے شک یہ ہر رائی کی چاہی ہے۔“<sup>①</sup>

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرٌ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

”ہر نشہ لانے والی شے حرام ہے۔ اور جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔“<sup>②</sup>

گویا شراب کا چھوٹا گھونٹ اور پھنسکی بھی حرام ہے۔

نہ صرف وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے بلکہ وہ لوگ جو بالواسطہ یا

<sup>①</sup> سنن ابن ماجہ، الأشربة، باب الخمر مفتاح کل شر، حدیث: 3371

<sup>②</sup> سنن ابن ماجہ، الأشربة، باب مأسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، حدیث: 3392

بلا واسطہ اس کا لین دین کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت انس رض سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«الْعِنْتُ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجَهٍ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا،  
وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَأَكِيلُ شَمْنَهَا،  
وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا»

”اللہ نے شراب پر دس وجہ سے لعنت فرمائی ہے ① نفس شراب پر ② اسے کشید کرنے والے پر ③ جس کے لیے کشید کی جائے اس پر ④ اس کے بیچنے والے پر ⑤ اور جو اسے خریدے اس پر ⑥ شراب لے جانے والے پر ⑦ اور جس کی طرف لے جائی جائے اس پر ⑧ شراب کی قیمت کھانے والے پر ⑨ اسے پینے والے ⑩ اور پلانے والے پر“ ①

### شراب سے لاحق ہونے والی بیماریاں

شراب اور دوسرا نشہ آور اشیاء کے استعمال سے منع کرنے کی بہت سی سائنسی وجہ بھی ہیں۔ دنیا میں شراب نوشی کے باعث سب سے زیادہ اموات واقع ہوتی ہیں۔ ہر سال شراب نوشی کی وجہ سے لاکھوں افراد مر جاتے ہیں۔ مجھے شراب کے تمام تر بڑے اثرات کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن عام طور پر اس سے جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

- جگر کا سرطان بہت مشہور بیماری ہے جو شراب نوشی کی وجہ سے لگتی ہے۔
- معدے کی نالی کا سرطان، بڑی آنت کا سرطان وغیرہ۔

① سنن ابن ماجہ ، الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ، حدیث: 3380

- معدے کی نالی، معدے، لبیے اور جگر کی سوزش کا تعلق شراب نوشی سے ہے۔
  - دل کے عضلات کا تباہ ہو جانا (Cardiomyopathy)، بلڈ پریشر کا بڑھنا (Hypertension)، دل کی شریان کا خراب ہونا (Coronary Artherosclerosis) دل کی تکلیف (انجینیا) اور دل کے دورے، ان تمام عوارض کا تعلق کثرتِ شراب نوشی سے ہے۔
  - دماغی فائر لج اور فائر لج کی مختلف اقسام کا تعلق بھی شراب نوشی سے ہے۔
  - مختلف اعصابی و دماغی امراض (Peripheral Neuropathy, Cortical Atrophy, Cerebellar Atrophy) اور فائر لج کی مختلف اقسام میں پچھلے واقعات کا بار بار دہرانا بھی شراب نوشی کی کثرت سے رونما ہونے والی تھایا میں کی قلت کا نتیجہ ہے۔
  - یادداشت خراب ہونا (Wernicke-Korsakoff Syndrome with Amnesia)
  - بیری بیری کا مرض اور دوسرا بیماریاں بھی شراب نوشیوں میں عام ہیں۔
  - ڈیلیریم ٹریکمنس شراب نوشی سے بار بار لاحق ہونے والا عسکریں عارضہ ہے جو بعض اوقات آپریشن کے بعد رونما ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ موت کا باعث بن جاتا ہے۔ قبضی اختلال، دہشت، گھبراہٹ اور وہم اس کی علامات ہیں۔
  - ایسٹوکرائیں (درون افرازی) غددوں کی خرابیاں، مثلًا:
- Myoxodema, Hyperthyroidism, Florid cushing
- خون کے سرخ ذرات کے عوارض، فولک ایسٹو کی کمی، خون کی کمی اور اس کے نتیجے میں اور خون میں سرخ ذرات کی کمی (انہیما) اور یقان وغیرہ کی بیماریاں بھی شراب نوشی کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔
  - خون کے سفید ذرات (Platelets) میں کمی اور ان کی دیگر خرابیاں۔

- عام استعمال ہونے والی دوائی فلچکل (میثرونیڈ ازول) کا شراب کے ساتھ بہت بُرا عمل ہوتا ہے۔
- جسم کا بار بار عفونت (Infection) میں مبتلا ہونا اور بیماریوں کے خلاف مدافعی نظام میں خرابی کثرت سے اور طویل عرصے تک شراب نوشی کا نتیجہ ہے۔
- چھاتی کی عفونت، نمونیا، پھیپھڑوں میں سوزش، ہوائی چھالا (Emphysema) اور پھیپھڑوں کی دل (لی بی) یہ سب شراب سے پیدا ہونے والی عام بیماریاں ہیں۔
- بلا نوش نشے میں عموماً قے کرتا ہے۔ وہ عضلات جو سانس کی نالی کو محفوظ رکھتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں تو قے عموماً پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے جو نمونیے اور پھیپھڑوں میں خرابی کا باعث بنتی ہے۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے دم گھٹ جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔
- عورتوں میں شراب کے اثرات زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ شرابی عورتوں میں مردوں کی نسبت جگر کے خلیات کی توز پھوڑ زیادہ ہوتی ہے۔ خاص طور پر حاملہ عورت میں شراب کے استعمال سے نومولود پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔
- جلد کی بیماریاں بھی شراب نوشی کی بدولت ہوتی ہیں۔
- جلدی بیماریاں، گنجائیں (Alopecia)، ناخنوں کا ٹوٹنا، ناخنوں کے گرد عفونت (Infection) اور باچھوں میں سوزش بھی شراب نوشی سے پیدا ہونے والی عام بیماریاں ہیں۔

شراب نہیں ایک بیماری ہے

ڈاکٹر اب شراب کے معاملے میں آزاد خیال ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کو نشے سے

زیادہ بیماری کا نام دے دیا ہے۔

اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے ایک پمپلٹ شائع کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر

شراب ایک بیماری ہے تو یہ واحد بیماری ہے جو:

» بوتلوں میں پیچی جاتی ہے۔

» اس کی اخبارات و جرائد میں اور ریڈیو و ٹیلو و ٹیشن پر تشویش کی جاتی ہے۔

» شراب نوشی کے اذوں کا لائسنس دیا جاتا ہے۔

» یہ گورنمنٹ کے لیے ریونیو اکٹھا کرتی ہے۔

» بڑی شاہراہوں پر خوفناک اموات کا باعث بنتی ہے۔

» خانگی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے اور جرام کی شرح میں اضافہ کرتی ہے۔

» یہ جراشیم یا وائرس کے بغیر ہی بنی نوع انسان کے لیے تباہی لاتی ہے۔

## شراب نوشی شیطان کا ہتھکنڈا سے

شراب نوشی محض بیماری نہیں، شیطان کا ایک ہتھکنڈا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی بے پایا حکمت سے ہمیں شیطان کے پھنڈے سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ انسان کا فطری مذہب ہے۔ اس کے تمام احکامات انسان کی اصلی اور فطری حالت برقرار رکھنے کے لیے ہیں۔ لیکن شراب ایک فرد اور ایک معاشرے کو اس کی فطرت سے ہٹا دیتی ہے۔ یہ انسان کو حیوانوں کے درجے سے بھی گرداتی ہے، حالانکہ وہ اشرف الخلقات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان تمام وجہوں کی بنا پر اسلام میں شراب حرام ہے۔

## سُورَةُ الْأَنْبَيْفَ

”سُورَةُ الْأَنْبَيْفَ کہانا اسلام میں کیوں منع ہے؟“

اسلام میں سور کا گوشت حرام ہے۔ یہ حقیقت بہت واضح ہے۔ مندرجہ ذیل نکات اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کیوں حرام ہے:

### قرآن میں سور کے گوشت کی ممانعت

قرآن میں سور کا گوشت کھانے سے کم و بیش 4 جگہ منع فرمایا گیا ہے۔ یہ ممانعت ان آیات: 2/173، 3/5، 6/145 اور 16/115 میں آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَعْمُ الْخَنَزِيرِ وَمَا أُهْلَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾

”تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو،“<sup>①</sup>

یہ آیات مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں کہ سور کا گوشت کیوں منع کیا گیا ہے، تاہم عیسائی اپنی مذہبی کتاب کے حوالے سے قائل ہو سکتے ہیں۔

## بابل میں سُور کے گوشت کی ممانعت

بابل کے عہد نامہ عتیق کی کتاب احبار (Leviticus) میں لکھا ہے:  
 ”اور سُور نہ کھانا کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں، ہر چند وہ جگائی نہیں  
 کرتا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو بھی نہ  
 چھونا۔ وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔“<sup>①</sup>

سُور کا گوشت بابل کی کتاب استثنا (Deuteronomy) میں بھی منع کیا گیا ہے:  
 ”اور سُور تمہارے واسطے اس لیے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں کو چرے ہوتے ہیں  
 مگر وہ جگائی نہیں کرتا۔ تم ان کا گوشت کھانا نہ ان کی لاش کو چھونا۔“<sup>②</sup>  
 اسی طرح بابل کی کتاب یسعیہ (Isaiah) باب 65 فقرہ 20 تا 5 میں بھی سُور کا گوشت  
 کھانے سے منع کیا گیا ہے۔

## سُور کا گوشت 70 بیماریوں کا سبب بنتا ہے

دوسرے غیر مسلم اور دہریے اس حقیقت کو اُسی وقت کو تسلیم کریں گے جب ان کو عقلی دلیل  
 اور سائنس کی بنیاد پر سمجھایا جائے کہ سُور کا گوشت مختلف قسم کی کم از کم ستر بیماریوں کا باعث بنتا  
 ہے۔ اسے کھانے والے کے معدے اور آنٹوں میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں، مثلاً:  
 راؤٹورم (پیٹ کے کیڑے)، پن ورم، ٹہک ورم۔ ان میں سے سب سے خطرناک ٹیپ ورم یا  
 Taenia Solium ہے جس کو عام زبان میں کدو دانہ کہتے ہیں۔ یہ آنٹوں میں ہوتا ہے اور  
 بہت لمبا ہوتا ہے، اس کا انڈا خون میں شامل ہو کر تقریباً تمام اعضاء تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ

دماغ میں چلا جائے تو یاد داشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر دل میں پہنچ جائے تو دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آنکھ میں داخل ہو جائے تو انہا پن پیدا کر سکتا ہے۔ اگر جگر میں داخل ہو جائے تو جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے، غرضیکہ یہ جسم کے تقریباً تمام حصوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔

ایک غلط خیال یہ ہے کہ اگر سور کا گوشت اچھے طریقے سے پکالیا جائے تو مضر کیڑوں کے انڈے مر جاتے ہیں۔ امریکہ میں ایک تحقیقی جائزے سے پتہ چلا کہ 24 افراد جو Trichura-Tichurasis نامی بیماری میں بتلا ہوئے، ان میں سے 22 نے سور کا گوشت اچھی طرح پکایا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے گوشت میں موجود جراثیم کے انڈے تیز درجہ حرارت پر پکانے سے بھی نہیں مرتے۔

### سور کا گوشت چربی پیدا کرتا ہے

سور کے گوشت میں عضلات ساز مادہ کم اور حد سے زیادہ چربی ہوتی ہے۔ یہ چربی خون کی نالیوں میں جم جاتی ہے جو فائح اور دل کے دورے کا باعث بنتی ہے۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ 50 فیصد امریکی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔

### زمین کا غلیظ ترین جانور

سور روئے زمین کا غلیظ ترین جانور ہے۔ یہ گوبر، فضلے اور گندگی پر پھلتا پھولتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ نے غلاظت خور اور سب سے زیادہ گندگی پر گزارہ کرنے والا جانور بنایا ہے۔ دیہات میں عموماً لیٹریز اور بیت الحلانیں ہوتے، اس لیے لوگ کھلی جگہوں پر رفع حاجت کرتے ہیں اور اکثر اس غلاظت کو سور ہی چٹ کرتے ہیں۔

کوئی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک جیسے آسٹریلیا وغیرہ میں سُوروں کو بڑی صاف ستری جگہ پالا جاتا ہے۔ ان صاف جگہوں پر بھی ان کو باڑوں میں رکھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سُوروں کو کتنی ہی صاف ستری جگہ رکھا جائے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ فطرتانگندے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ساتھ والے کا فضلہ بھی کھا جاتے ہیں۔

### سُور پے شرم جانور ہے

خزیر زمین پر پایا جانے والا سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے۔ یہ واحد جانور ہے جو دیگر سُوروں کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کی ساتھی سُور نی سے جنسی فعل کریں۔ امریکہ میں اکثر لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ کئی دفعہ محفلِ رقص (ڈانس پارٹی) کے بعد وہ اپنی بیویاں بدل لیتے ہیں، اور کہتے ہیں: ”تم میری بیوی کے ساتھ سو جاؤ اور میں تمھاری بیوی کے ساتھ ہمبستر ہوں گا۔“ ظاہر ہے جو لوگ سُور کا گوشت کھائیں گے وہ اسی طرح کریں گے۔

## اسلام میں گوشت خوری کی اجازت کیوں؟

”جانور کو ہلاک کرنا ایک ظالمانہ فعل ہے، پھر مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں؟“

سبزی خوری (Vegetarianism) اب پوری دنیا میں ایک تحریک بن گئی ہے۔ کچھ لوگ اسے جانوروں کے حقوق سے جوڑتے ہیں۔ دراصل لوگوں کی ایک بڑی تعداد گوشت اور دوسری غیر نباتی اشیاء کے بطور خواراک استعمال کو جانوروں کے حقوق کی خلاف ورزی سمجھتی ہے۔

اسلام تمام جانداروں سے رحم اور اچھے سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نے زمین پر سبزہ اور حیوانات انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اب یہ انسان پر مخصر ہے کہ وہ ہر ویلے کو کس طرح عدل کے ساتھ اللہ کی نعمت اور امانت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔

اب ہم اس دلیل کے دوسرے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔

**مسلمان خالص سبزی خور ہو سکتا ہے**

ایک مسلمان سبزی خور ہو کر بھی بہت اچھا مسلمان ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری

نہیں کہ وہ گوشت خوری ہوں۔

### گوشت خوری کی اجازت

قرآن کی رو سے مسلمانوں کو گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ مندرجہ ذیل قرآنی آیات اس کا ثبوت ہیں:

﴿وَالآنَعَمْ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ، وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑤﴾

”اُس (اللہ) نے تمھارے لیے مویشی بنائے، جن (کے اون) میں تمھارے لیے سردی سے بچاؤ اور بہت سے فائدے ہیں اور تم ان میں سے بعض کا گوشت کھاتے ہو۔<sup>①</sup>

﴿وَلَئِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَمِ لِعِبْدَةٍ شُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطْوَنَهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑥﴾

”اور بلاشبہ مویشیوں میں تمھارے لیے ضرور (سامان) عترت ہے۔ ہم تمھیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں (دودھ) ہے۔ اور تمھارے لیے ان میں بے شمار فائدے ہیں اور تم ان میں سے بعض کا گوشت کھاتے ہو۔<sup>②</sup>

### گوشت غذائیت اور پروٹین سے بھرپور ہے

غیر نباتی خوراک، یعنی انڈا، مچھلی اور گوشت پروٹین کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اس میں حیاتیاتی طور پر مکمل پروٹین یعنی 8 ضروری اماں سوائیڈز پائے جاتے ہیں جنہیں جسم تیار نہیں کرتا، اس لیے یہ خوراک کے ذریعے سے لیے جانے چاہیے۔ گوشت میں فولاد، وٹامن بی و ان اور

① النحل: 23/21 ② المؤمنون: 5/16

نیاں(Niacin) بھی شامل ہوتے ہیں۔

### انسانی دانت ہمہ خور ہیں

اگر آپ سبزی خور جانوروں، یعنی گائے، بھیڑ اور بکری وغیرہ کے دانتوں کا مشاہدہ کریں تو آپ انھیں حیران کن حد تک ایک جیسے پائیں گے۔ ان تمام جانوروں کے دانت چوڑے ہوتے ہیں جو سبز پتوں والی خوراک کے لیے موزوں ہیں اور اگر آپ گوشت خور جانوروں چیزیں، شیر، کتے وغیرہ کے دانتوں کا مشاہدہ کریں تو ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں جو گوشت خوری کے لیے موزوں ہیں۔ اور اگر آپ انسانی دانتوں کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں چوڑے اور نوکیلے دونوں قسم کے دانت پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کے دانت سبزی اور گوشت دونوں قسم کی خوراک کے لیے موزوں ہیں، یعنی وہ ہمہ خور ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ اگر اللہ نے انسان کو محض سبزی خور بنایا ہوتا تو اس کے نوکیلے دانت کیوں ہوتے؟ یہ منطقی بات ہے کہ وہ جانتا تھا کہ انسان کو دونوں قسم کی خوراک کی ضرورت پڑے گی۔

### انسان کا نظام انہضام

چندوں کا نظام انہضام صرف پتوں والی خوراک ہضم کر سکتا ہے اور گوشت خور جانوروں کا نظام انہضام صرف گوشت ہضم کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کا نظام انہضام سبزیوں اور گوشت دونوں قسم کی غذا ہضم کر سکتا ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ ہم صرف سبزیاں کھائیں تو پھر اس نے ہمیں ایسا نظام انہضام کیوں دیا جو سبزیوں اور گوشت دونوں قسم کی غذاؤں کو ہضم کر سکے؟

### ہندوؤں کی فرقی کتب میں گوشت خوری کی اجازت

■ بہت سے ہندو ایسے ہیں جو سختی سے سبزی کھانے کے پابند ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ

بات ان کے مذهب کے خلاف ہے کہ وہ غیر نباتی خوراک، یعنی گوشت وغیرہ استعمال کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں اپنے پیر و کاروں کو گوشت کھانے کی اجازت دیتی ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ ہندو رishi اور مُنّی (بزرگ اور عالم) گوشت کھاتے رہے۔

ہندوؤں کی کتاب ”منوسمرتی“ کے باب نمبر 5 کی 30 ویں سطر میں ہے:  
 ”جو شخص (ان جانوروں کا) گوشت کھائے جن کا گوشت کھانا چاہیے تو وہ کوئی بُرا کام نہیں کرتا خواہ وہ ایسا روزانہ کرے کیونکہ خدا نے کچھ چیزیں کھائے جانے کے لیے پیدا کی ہیں اور کچھ کو ان چیزوں کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔“

اور ”منوسمرتی“، ہی کے باب 5 کی سطر 31 میں لکھا ہوا ہے:  
 ”قربانی کا گوشت کھانا صحیح ہے کیونکہ یہی دیوتاؤں کا روایتی طریقہ ہے۔“

اور ”منوسمرتی“، ہی کے باب 5 کی سطور 40, 39 میں یہ جملہ بھی موجود ہے:  
 ”خدا نے خود ہی قربان کیے جانے والے جانور قربانی کے لیے پیدا کیے ہیں، اس لیے قربانی کے لیے ان کو ہلاک کرنا دراصل ہلاک کرنا نہیں ہے۔“

مہا بھارت انوشاں پروا کا باب نمبر 88 وھرم راج یدھشتر اور پیغمبھیشم کی گفتگو بیان کرتا ہے کہ شردھا (مردوں کی رسوم) کی تقریب میں پتھری (باپ دادا) کو کس طرح کی خوراک پیش کرنی چاہیے تاکہ مردوں کو سکون ملے۔ پیرا گراف اس طرح ہے:

یدھشتر نے کہا: ”اوہ ماشکتی والے! ہم اپنے دادا کے لیے کوئی چیز وقف کریں جو کبھی ختم نہ ہو؟ کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ رہے؟ کیا چیز ہے جو امر ہو جاتی ہے؟“  
 پیغمبھیشم نے کہا: ”سُو یدھشتر! کون سی اشیاء ہیں جو شردھا سے اچھی طرح واقف اشخاص کے نزدیک اس قسم کی تقریبات کے لیے موزوں ہیں؟ اوہ ماہراج! اسی کے

نئج، چاول، جو، ماش، پانی، چندر اور پھل اگر باپ دادا کو پیش کیے جائیں تو ان کی آتما ایک ماہ شانت (پر سکون) رہے۔ مچھلی پیش کرنے سے ان کی آتما 2 ماہ شانت رہے۔ بھیڑ کے گوشت سے تین ماہ، خرگوش سے چار ماہ، بکری کے گوشت سے 5 ماہ، سور کے گوشت سے 6 ماہ اور پرندوں کے گوشت سے 7 ماہ شانت رہے۔ پریشت نامی ہرن کے گوشت سے 8 ماہ اور رورو نامی ہرن کے گوشت سے 9 ماہ، گائے کے گوشت سے دس ماہ، بھیں کے گوشت سے 11 ماہ اور نیل گائے کے گوشت سے پورا سال شانت رہے۔ گھنی ملا پیاز بھی باپ دادا کو قبول ہے۔ ودھری ناس (بڑے بھینیے) کا گوشت 12 سال شانت رکھے۔ اور گینڈے کا گوشت جو چندر ماس (چاند کے مہینوں) کے حساب سے باپ دادا کی برسی پر جس دن وہ فوت ہوئے پیش کیا جائے تو وہ بھی ختم نہ ہو۔ کلاسک نامی بوٹی، کنچن پھول کی پتیاں اور سرخ بکری کا گوشت بھی اسی طرح پیش کیا جائے تو وہ بھی ختم نہ ہو، لہذا یہ فطری امر ہے کہ اگر آپ اپنے باپ دادا کو ہمیشہ شانت رکھنا چاہیں تو انھیں سرخ بکری کا گوشت پیش کریں۔“

### مذکور درست مذاہب سے متاثر ہوئے سر

اگرچہ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں اپنے پیروکاروں کو گوشت کھانے سے منع نہیں کرتیں، بہت سے ہندوؤں نے محض سبزیاں اور دالیں کھانے کی عادت دوسرے مذاہب سے متاثر ہو کر اپنائی جن میں ”جین مت“ سرفہرست ہے۔

### مذکور مذاہب کے مختصات سر

کچھ مذاہب نے سبزیوں اور دالوں کو مکمل غذا کے طور پر اپنالیا ہے کیونکہ وہ جانداروں کو

مارنے کے یکسر خلاف ہیں۔ اگر انسان کسی جاندار کو ہلاک کیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے تو میں ایسا طرز زندگی اختیار کرنے والا پہلا شخص ہوں گا۔ لیکن بات دراصل یوں نہیں۔ ماخی میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پودے بے جان ہیں لیکن آج یہ ایک معروف عالمگیر حقیقت ہے کہ پودے بھی زندگی رکھتے ہیں، اس لیے اب ان کی اس بات میں کوئی وزن نہیں کہ وہ خالص سبزی خور ہوتے ہوئے کسی جاندار کو ہلاک نہیں کرتے کیونکہ پودوں اور سبز یوں کو کافی بھی تو جانداروں کو ہلاک کرنا ہے۔

### پودے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں

سبزی خور یہ دلیل دیتے ہیں کہ پودے تکلیف محسوس نہیں کرتے، اس لیے پودوں کو ختم کرنے کا جرم جانوروں کو ختم کرنے سے کمتر جرم ہے۔ لیکن آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پودے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، تاہم ان کی چیخ پکار انسان نہیں سن سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے کان ان آوازوں کو نہیں سُن سکتے جو ساعت کی حدود (20 ہر ٹرٹ 20000 ہر ٹرٹ) سے باہر ہوں۔ کوئی آواز اس رتبج سے زیادہ ہو یا کم تو وہ انسانی کان کی ساعت میں نہیں آتی۔ کتنے 40000 ہر ٹرٹ کی آواز سن سکتے ہیں، لہذا ایسی آوازیں جن کا تعداد 20000 ہر ٹرٹ سے زیادہ اور 40000 ہر ٹرٹ سے کم ہو، انھیں صرف کتنے سن سکتے ہیں انسان نہیں۔ کتنے اپنے آقا کی سیٹی کی آواز پہچانتے ہیں اور اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ ایک امریکی کسان نے تحقیق کی اور اس نے ایسا آلہ ایجاد کیا جو پودوں کی چیخ پکار کو اس طرح تبدیل کر دیتا ہے کہ اسے انسان سُن سکے۔ اس کے ذریعے سے وہ فوراً یہ محسوس کرنے کے قابل ہو گیا کہ پودا کب پانی کے لیے چیخ رہا تھا۔ جدید تحقیقات نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ پودے خوشی اور غم کو بھی محسوس کرتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں۔

## حوالہ کا قتل

ایسی مخلوق جس کے دو حواس کم ہیں ان کا قتل بھی چھوٹا جرم نہیں۔ ایک دفعہ ایک سبزی خور نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ پودے سے صرف دو یا تین حواس رکھتے ہیں جبکہ جانوروں کے پانچ حواس ہوتے ہیں، اس لیے پودوں کو ختم کرنا جانوروں کو ختم کرنے سے کم درجے کا جرم ہے۔ فرض کریں آپ کا بھائی پیدائشی گونگا اور بہرہ ہے اور اس کے دو حواس دوسرے انسانوں کی نسبت کم ہیں۔ وہ بڑا ہو جاتا ہے اور کوئی اس کو قتل کر دیتا ہے۔ کیا آپ منصف سے کہیں گے کہ اسے کم سزا دیں کیونکہ آپ کا بھائی دو حواس کم رکھتا ہے؟ جی نہیں! اس کے برعکس آپ کہیں گے کہ اس نے معصوم کو قتل کیا ہے، اس لیے منصف کو چاہیے کہ اسے زیادہ سزا دے۔

قرآن مجید کہتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾

”اے لوگو! زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انھیں کھاؤ پیو۔“<sup>①</sup>

## مویشیوں کی زیادہ تعداد

اگر ہر انسان سبزی خور ہوتا تو دنیا میں مویشیوں کی تعداد حد سے بڑھ جاتی کیونکہ ان کی پیداوار اور بڑھوتری بڑی تیزی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اپنی مخلوق میں مناسب توازن رکھا ہے، اس لیے اس میں کوئی حراثی کی بات نہیں کہ اس نے ہمیں مویشیوں کو کھانے کی اجازت دی ہے۔

میں اس بات کو محسوس نہیں کرتا کہ ایک شخص کامل طور پر سبزی خور ہے لیکن جو سبزی خور نہیں اسے بھی ظالم اور بے رحم نہیں کہنا چاہیے۔

## اسلام میں ذبح کرنے کا طریقہ ظالمانہ ہے؟

”مسلمان جانوروں کو ظالمانہ طریقے سے دھیرے کیوں ذبح کرتے ہیں؟“

جانور ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ ”ذبیحہ“ غیر مسلموں کی اکثریت کے نزدیک تنقید کا باعث ہے۔ اگر کوئی مندرجہ ذیل نکات کو سمجھ لے تو وہ جان سکتا ہے کہ ذبح کرنے کا یہ طریقہ نہ صرف رحم لانہ ہے بلکہ سائنسی لحاظ سے بھی بہترین ہے۔

### ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ سر

اسلامی طریقے سے جانور ذبح کرنے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا خیال رکھنا چاہیے:

- جانور کو تیز دھار چاقو یا چھری سے تیزی سے ذبح کرنا چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔

- ”ذبیحہ“ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے: ”ذبح کیا گیا۔“ جانور کو ذبح کرنے کا عمل اس کا گلا، سانس کی نالی اور گردن میں موجود خون کی نالیاں کاٹ کر انجام دینا چاہیے۔
- سر اٹارنے سے پہلے خون کو مکمل طور پر بہ جانے دینا چاہیے۔ خون کی بیشتر مقدار نکالنے

کی وجہ یہ ہے کہ خون میں جراثیم نشوونما پاسکتے ہیں۔ حرام مغز کو نہیں کامنا چاہیے کیونکہ دل کو جانے والے اعصاب کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یوں دل کی دھڑکن رک جانے کی وجہ سے خون مختلف نالیوں میں مخدود ہو جاتا ہے۔

### خون میں جراثیم اور بیکٹیریا

خون مختلف قسم کے جراثیم، بیکٹیریا اور زہروں (Toxins) کی منتقلی کا ذریعہ ہے، اس لیے مسلمانوں کا ذبح کرنے کا طریقہ زیادہ صحت مند اور محفوظ ہے کیونکہ خون میں تمام قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، لہذا زیادہ سے زیادہ خون جسم سے نکل جانے دینا چاہیے۔

### ذبح گوشت کی تاریخی

جانور اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے تو خون کے مکانہ حد تک شریانوں سے نکل جانے کی بدولت گوشت ذبح کرنے کے دوسرے طریقوں کی نسبت زیادہ دریتک تازہ رہتا ہے۔

### جانور کو تکلیف نہیں ہوں

گردن کی شریانیں تیزی کے ساتھ کامنے سے دماغ کے اس عصب (Nerve) کی طرف خون کا بہاؤ رک جاتا ہے جو احساس درد کا ذمہ دار ہے۔ یوں جانور کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ جانور جب مرتے وقت ترپتا ہے یا تائگیں ہلاتا اور مارتا ہے تو یہ درد کی وجہ سے نہیں بلکہ خون کی کمی کے باعث عضلات کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور خون کی کمی کا سبب خون کا جسم سے باہر کی طرف بہاؤ ہوتا ہے۔

## گوشت مسلمانوں کو مقشود بناتا ہے؟

”سامنہ بتاتی ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اثر اُس کے رویے پر پڑتا ہے، پھر اسلام مسلمانوں کو غیر بنا تاتی خوراک، یعنی گوشت وغیرہ کھانے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ جبکہ جانوروں کا گوشت کھانے سے ایک شخص ظالم اور مقشود ہو سکتا ہے۔“

میں اس بات سے متفق ہوں کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام درندوں اور چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کرتا ہے اور ان کے گوشت کو حرام قرار دیتا ہے، مثلاً: شیر، چیتا وغیرہ جو پُر تشدد اور خونخوار جانور ہیں۔ ان جانوروں کا گوشت کھانے سے ایک شخص مقشود اور ظالم ہو سکتا ہے۔ اسلام صرف چرندوں یا سبزی خور جانوروں کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، جیسے گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ جو کہ پُر امن اور فرمانبردار ہوتے ہیں۔ مسلمان پُر امن اور سدھائے جانے والے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں کیونکہ وہ خود امن پسند اور صلح جو لوگ ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے ہر اُس چیز سے منع فرمایا ہے جو بُری ہے۔ قرآن کہتا ہے:

﴿يَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَحِلُّ لَهُمُ الظَّبَابُ  
وَيَنْهِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيِثَ﴾

”وہ (نبی کریم ﷺ) ان کو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور بُرے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔“<sup>①</sup>  
مزید فرمایا:

﴿وَمَا أَءَانَّكُمُ الرَّسُولُ فَحَذَّرُوهُ وَمَا نَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُمْ هُوَ أَعَلَىٰ﴾

”رسول تمھیں جو کچھ دیں، وہ لے لو اور جس سے روکیں، اس سے رُک جاؤ“<sup>②</sup>، ایک مسلمان کے لیے نبی ﷺ کا یہ فرمان کافی ہے کہ اللہ چاہتا ہے انسان وہ گوشت کھائیں جس کی اللہ نے انھیں اجازت دی ہے اور وہ مت کھائیں جس کی اجازت نہیں دی۔

### درندل کا گھست حرام ہونے کی احادیث

صحیحین کی بعض مستند حدیثوں میں، جن میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں شامل ذبح متعلق حدیث نمبر: 1934 بھی ہے، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر: 3232 تا 3234 میں نبی کریم ﷺ نے درج ذیل دو قسموں کے جانور حرام قرار دیے ہیں:  
 ■ ذی ناب: وہ جنگلی جانور جن کے دانت نو کیلے ہوں، یعنی گوشت خور درندے اور جو بلی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً: شیر، چیتا، کتا، بلی اور بھیڑیا وغیرہ۔ کترنے والے جانور، جیسے چوہیا، چوہا وغیرہ۔ رینگنے والے جانور، مثلاً: سانپ اور مگر مچھ وغیرہ۔ (یہ سب ”ذی ناب“ یعنی نو کیلے دانتوں والے جانور ہیں)

■ ذی مخلب: بچبوں سے شکار کرنے والے تمام پرندے، جیسے گدھ، عقاب، کوئے اور آٹو وغیرہ۔ نوٹ: ایسی کوئی سائنسی شہادت موجود نہیں جو ثابت کرتی ہو کہ غیر بنا تاتی خوراک، یعنی گوشت کھانے سے انسان متشدد ہو جاتا ہے۔

## مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟

”جب مسلمان ایک ہی قرآن کی پیروی کرتے ہیں تو ان میں اتنے زیادہ فرقے اور مکاتب فکر کیوں ہیں؟“

دراصل مسلمان آج تقسیم ہو گئے ہیں۔ الیہ یہ ہے کہ اسلام میں ایسی تقسیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں میں اتحاد کو فروغ دینے پر یقین رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَأَنْتَصِمُوا بِحَجَبٍ اللَّهُ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

”اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تحام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔“<sup>①</sup>

اس آیت میں اللہ کی کون سی رسی کا ذکر ہے؟ یہ قرآن عظیم ہے۔ یہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے جسے تمام مسلمانوں کو مضبوطی سے تحام لینا چاہیے۔ اس آیت میں دو ہر حکم دیا گیا ہے۔ ”سب مل کر مضبوطی سے تحام لو۔“ کے علاوہ یہ بھی حکم ہے کہ ”تم جدا جد انہ ہو جاؤ۔“ قرآن میں مزید فرمایا گیا ہے:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

<sup>①</sup> آل عمران: 103/3

”اللَّهُ أَوْ أُسْ كَرِسُولُكَ اطَّاعُتُ كُرُوسَ“<sup>①</sup>

لہذا تمام مسلمانوں کو قرآن اور مستند احادیث کی پیروی کرنی چاہیے اور آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ -

### فرقت بندی اللہ کی نافرمانی ہے

قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَةً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ  
هُمْ يُنْتَهُمُ مِّمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾<sup>②</sup>

”(اے نبی!) بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں تقسیم کیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ (آخرت میں) ان کو ان کے عملوں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔“<sup>③</sup>

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان کو ایسے لوگوں سے علیحدہ رہنا چاہیے جنہوں نے دین کو فرقوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔

لیکن جب کسی مسلمان سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو عام طور پر یہی جواب دیا جاتا ہے: ”میں سنی ہوں۔“ یا ”میں شیعہ ہوں۔“ کچھ اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں اور کوئی بتاتا ہے کہ میں بریلوی ہوں۔

### ہمارے نبی ﷺ مسلمان تھے

ایسے مسلمان سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ ”ہمارے پیارے نبی ﷺ کیا تھے؟ کیا وہ حنبلی،

① النساء: 159 / ② الأنعام: 159

شافعی، حنفی یا مالکی تھے؟“ جواب ملے گا: ”بالکل نہیں۔ وہ اللہ کے ان تمام پیغمبروں کی طرح مسلمان تھے جو ان سے پہلے آئے تھے۔“ قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ مسلمان تھے۔ جب انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا:

﴿مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى اللَّهِ﴾

”اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟“

تو حواریوں نے کہا:

﴿أَنَّحُنْ أَنْصَارُ اللَّهِ إِمَّا بِاللَّهِ وَآشْهَدُ إِنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ۵۲

”ہم اللہ (کی راہ میں آپ) کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔“

ان الفاظ سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ اور ان کے پیروکار مسلمان ہی تھے۔

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصَارَائِيًّا وَلِكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾

”ابراهیم (علیہ السلام) نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ تو خالص مسلمان تھے۔“

## قرآن کا حکم سسر

اسلام کے پیروکار اس امر کے پابند ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو جب اس سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو اسے کہنا چاہیے: ”میں مسلمان ہوں۔“ حنفی اور شافعی وغیرہ نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن کی سورہ فصلت

① آل عمران: 52/3      ② آل عمران: 52/3      ③ آل عمران: 67/3

(خَمْ السَّجْدَةُ) میں ہے:

﴿وَمَنْ أَحْسَنَ فَوْلَا مَمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ②

”اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو (لوگوں کو) اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔“ ①

دوسرے لفظوں میں قرآن کی یہ آیت یہ کہنے کا حکم دیتی ہے کہ ”میں مسلمان ہوں۔“ نبی کریم ﷺ نے ۷۵ میں غیر مسلم حکمرانوں کو اسلام کی دعوت قبول کرنے کے خطوط لکھوائے۔ روم، مصر اور جنش کے عیسائی حکمرانوں کے نام خطوط میں آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 64 بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ لکھوائے:

﴿فَقُولُوا أَشْهَدُوا إِنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ④

”تم کہو: گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔“ ②

### ائمه اسلام کا احترام

”میں اسلام کے ائمہ کا احترام کرنا چاہیے۔ ان میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور امام مالک، اور دیگر ائمہ یہاں شامل ہیں۔ وہ سب بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی تحقیق اور محنت کا صلدے۔ اگر کوئی امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یہاں کے نظریات اور تحقیق سے متفق ہو تو اس پر کسی شخص کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ سے کوئی پوچھتے کہ ”تم کون ہو؟“ تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ ”میں مسلمان ہوں۔““

① خَمْ السَّجْدَةُ: 41/33      ② آل عمران: 3/64

کچھ لوگ سنن ابو داود میں حضرت معاویہ رض کی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اس میں نبی ﷺ نے فرمایا:

«وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَةَ سَتُفَتَّرُقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنَّاتٍ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ»

”بے شک یہ ملت تہتر<sup>(73)</sup> فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بہتر<sup>(72)</sup> فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں داخل ہو گا اور وہ ”الجماعۃ“ (یعنی صحابہ کے منبع پر قائم گروہ) ہو گا۔<sup>①</sup>“

حدیث یہ بتاتی ہے کہ نبی گریم ﷺ نے تہتر<sup>(73)</sup> فرقے بننے کی پیش گوئی کی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم ہونے کی شعوری کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن عظیم ہمیں فرقے بنانے کی ممانعت کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک اور صحیح حدیث کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں اور فرقے نہیں بناتے اور نہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، وہی صحیح راست پر چلنے والے ہیں۔

جامع ترمذی میں حضرت عبد اللہ بن عمر و رض کی حدیث کے مطابق نبی گریم ﷺ نے فرمایا:

«وَتَفَرَّقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ: وَمَنْ هِيَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

”میری امت تہتر<sup>(73)</sup> گروہوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے تمام گروہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے۔“ راوی نے پوچھا کہ یہ کون سا گروہ ہو گا؟

① سنن أبي داود، السنة ، باب شرح السنة ، حدیث: 4597

جواب دیا: ”وَهُوَ رَوْهُ جَوَاسِ رَاسِتَهُ پَرِ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔“<sup>①</sup>  
 قرآن عظیم کی بہت سی آیات میں کہا گیا ہے: ”اللَّهُ أَوْرَاسُكَ رَسُولُكَ مَنْ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ“  
 ایک سچے مسلمان کو قرآن اور صحیح حدیث کی پیروی کرنی چاہیے۔ وہ کسی بھی عالم یا امام سے  
 متفق ہو سکتا ہے جب تک اس کے افکار و نظریات قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق  
 ہوں۔ اور اگر اس کے نظریات اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی ﷺ کی سنت کے برعکس ہوں تو  
 پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں، چاہے وہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم یا دینی رہنماء ہو۔  
 اگر تمام مسلمان قرآن کریم ہی کو سمجھ کر پڑھیں اور صحیح حدیث سے وابستہ رہیں تو ان شاء اللہ  
 تمام اختلافات میٹ جائیں گے اور ہم ایک متحد امت بن جائیں گے۔

  
[WWW.DEENEKHALIS.COM](http://WWW.DEENEKHALIS.COM)

[WWW.RAHEHAQ.COM](http://WWW.RAHEHAQ.COM)

[WWW-ESNIPS.COM/USER/TRUEMASLAK](http://WWW-ESNIPS.COM/USER/TRUEMASLAK)

Please visit:

"CHOOSE TRUE MASLAK" SECTION

برائے ہر ہانی یہ کتاب حضرت خریدیں اور غیر مسلموں تک  
 نزیادہ سے نزیادہ تعداد میں پہنچائیں۔

---

① جامع الترمذی، الإیمان، باب ماجاء فی افتراق هذه الأمة، حدیث: 2641

## اسلام اور مسلمانوں کے عمل میں واضح فرق کیوں؟

”اگر اسلام بہترین مذہب ہے تو بہت سے مسلمان بے ایمان کیوں ہیں اور دھوکے بازی، رشوت اور نشیات فروشی میں کیوں ملوث ہیں؟“

اسلام بلاشبہ بہترین مذہب ہے لیکن میڈیا مغرب کے ہاتھ میں ہے جو اسلام سے خوفزدہ ہے۔ میڈیا مسلسل اسلام کے خلاف خبریں نشر کرتا اور غلط معلومات پہنچاتا ہے۔ وہ اسلام کے بارے میں غلط تاثر پیش کرتا ہے، غلط حوالے دیتا ہے اور واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ جب کسی جگہ کوئی بم پھٹتا ہے تو بغیر کسی ثبوت کے سب سے پہلے مسلمانوں پر الزام لگادیا جاتا ہے۔ وہ الزام خبروں میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذمہ دار غیر مسلم تھے تو یہ ایک غیر اہم اور غیر نمایاں خبر بن کر رہ جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی پچاس برس کا مسلمان کسی پندرہ سالہ لڑکی سے اس کی اجازت سے شادی کرتا ہے تو مغربی اخبارات میں وہ پہلے صفحے کی خبر بنتی ہے۔ لیکن جب کوئی 50 سالہ غیر مسلم 6 سالہ لڑکی کی عصمت دری کرتا ہے تو یہ سانحہ اندر کے صفحات میں ایک معمولی سی خبر کے طور پر شائع ہوتا ہے۔ امریکہ میں روزانہ عصمت دری کے 2713 واقعات پیش آتے ہیں لیکن یہ خبروں میں جگہ نہیں پاتے کیونکہ یہ امریکیوں کی طرز زندگی کا ایک حصہ ہیں۔

## ہر معاشرے میں ناکارہ لوگ ہوتے ہیں ۔

میں اس بات سے باخبر ہوں کہ ایسے مسلمان یقیناً موجود ہیں جو دیانتدار نہیں اور دھوکے بازی اور دوسرا مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ لیکن میڈیا یا یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف مسلمان ہی ان کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ ایسے افراد اور جرائم دنیا کے ہر ملک اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سے مسلمان بلا نوش ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ مل کر شراب نوشی کرتے ہیں۔

## مسلم معاشرے کی مجموعی حالت بہتر ہے ۔

اگرچہ مسلمان معاشرے میں بھی کافی بھیڑیں موجود ہیں مگر مجموعی طور پر مسلمانوں کا معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ ہے۔ ہمارا معاشرہ دنیا کا وہ سب سے بڑا معاشرہ ہے جو شراب نوشی کے خلاف ہے، یعنی ہمارے ہاں عام مسلمان شراب نہیں پیتے۔ مجموعی طور پر ہمارا ہی معاشرہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرتا ہے۔ اور جہاں تک حیا، متانت، انسانی اقدار اور اخلاقیات کا تعلق ہے دنیا کا کوئی معاشرہ ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ بونسیا، عراق اور افغانستان میں مسلمان قیدیوں سے عیسائیوں کا سلوک اور برطانوی خاتون صحافی کے ساتھ طالبان کے برتاؤ میں واضح فرق صاف ظاہر ہے۔

## کارکوڈ رائیور سے نہ پر کئے ۔

اگر آپ جانا چاہیں کہ مر سیڈیز کارکانیا ماؤل کیسا ہے اور ایک ایسا شخص جو ڈرائیور نگ نہیں جانتا سٹیئرنگ پر بیٹھ جائے اور گاڑی کھیس دے مارے تو آپ کس کو الزام دیں گے؟ کارکویا

ڈرائیور کو؟ فطری بات ہے کہ آپ ڈرائیور کو الزام دیں گے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کار کتنی اچھی ہے، ڈرائیور کو نہیں بلکہ کار کی صلاحیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی تیز چلتی ہے، ایندھن کتنا استعمال کرتی ہے، کتنی محفوظ ہے وغیرہ وغیرہ۔

اسی طرح اگر یہ بات محض دلیل کے طور پر مان بھی لی جائے کہ مسلمان خراب ہیں تو بھی ہم اسلام کو اس کے پیروکاروں سے نہیں جانچ سکتے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کتنا اچھا ہے تو اسے اس کے مستند ذرائع سے پڑھیں، یعنی قرآن مجید اور صحیح احادیث سے!

### اسلام کو محمد ﷺ کی ذات گرامی سے پڑھیں سر

اگر آپ عملی طور پر یہ دیکھنا چاہیں کہ کار کتنی اچھی ہے تو اس کے سٹرینگ وہیل پر کسی ماہر ڈرائیور کو بٹھائیں، اسی طرح یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آخری پیغمبر محمد ﷺ کو سامنے رکھ کر دیکھیں۔ مسلمانوں کے علاوہ بہت سے دیانتدار اور غیر متعصب غیر مسلم موئخوں نے علانیہ کہا ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے بہترین انسان تھے۔ مائل ایج ہارٹ نے ”تاریخ پراذر انداز ہونے والے سو انسان“ کے عنوان سے کتاب لکھی جس میں سرفہrst پیغمبر اسلام محمد ﷺ کا اسم گرامی ہے۔ غیر مسلموں کی اور بھی بہت سی مشاہیں ہیں جن میں انہوں نے نبی ﷺ کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، مثلاً: تھامس کارلائل، لامارٹن وغیرہ۔

## غیر مسلموں کو مکہ جانے کی اجازت کیوں نہیں؟

”غیر مسلموں کو مقدس شہروں مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت کیوں نہیں؟“

یہ صحیح ہے کہ قانون کے تحت غیر مسلموں کو مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت نہیں۔ مندرجہ ذیل نکات اس پابندی کی وجہ کو واضح کریں گے:

### نکات

میں بھارت کا ایک شہری ہوں، پھر بھی مجھے کئی ممنوع علاقوں، مثلاً فوجی چھاؤنی کی حدود میں جانے کی اجازت نہیں۔ ہر ملک میں کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں اس ملک کے عام شہری کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو باقاعدہ فوج میں شامل ہوں یا جن کا تعلق ملک کے دفاع سے ہو، صرف ان کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، اسی طرح اسلام بھی تمام انسانوں کے لیے عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام کی چھاؤنی یا ممنوعہ علاقہ صرف دو مقدس شہر مکہ اور مدینہ ہیں۔ یہاں صرف وہ لوگ جو اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، وہی قدم رکھ سکتے ہیں۔

ایک عام شہری کے لیے یہ بات غیر منطقی ہو گی کہ وہ فوجی چھاؤنی میں داخلے پر پابندی کے

سلسلے میں اعتراض کرے، اسی طرح غیر مسلموں کا یہ اعتراض بھی قطعی غلط ہے کہ مکہ اور مدینہ میں ان کے داخلے پر پابندی کیوں ہے۔

### ویزا پالیسی سر

جب کوئی شخص کسی دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے، سب سے پہلے اسے ویزے کی درخواست دینی پڑتی ہے جو گویا اس ملک میں داخل ہونے کا اجازت نامہ ہے۔ ہر ملک کے اپنے قوانین و ضوابط اور ویزا جاری کرنے کی شرائط ہیں۔ اگر ان کے معیار اور شرائط کو پورا نہیں کیا جاتا تو ان کو داخلے کی اجازت نہیں ملتی۔

ویزا جاری کرنے والے ملکوں میں سب سے زیادہ سخت قوانین امریکہ کے ہیں، خاص طور پر جب تیسری دنیا کے لوگوں کو ویزا دینے کا معاملہ ہو۔ ویزا حاصل کرنے سے پہلے ان کی بہت سی شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے۔

جب میں سنگاپور گیا تو ان کے امیگریشن فارم پر درج تھا کہ وہاں نشیات لے جانے والوں کے لیے موت کی سزا مقرر ہے اور ہر ایک کو اس قانون کی پابندی کرنا پڑے گی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت کی سزا وحشیانہ سزا ہے۔ اگر میں ان کی شرائط سے متفق اور ان کے مطلوبہ معیار پر پورا اترتا ہوں تو مجھے وہاں جانے کی اجازت ہے۔

کسی بھی انسان کے لیے مکہ اور مدینہ جانے کی بنیادی شرط یا ویزا یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جس کے معنی ہیں：“اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔”

## کیا غیر مسلموں کو کافر کہنا گالی ہے؟

”کافر“ اُسے کہتے ہیں جو جھلاتا یا انکار کرتا ہے۔ ”کافر“ کا لفظ ”کفر“ سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں: جھلانا یا چھپانا۔ اسلامی اصطلاح میں ”کافر“ کا مطلب ہے جو اسلام کی تعلیمات اور اس کی سچائی کو جھلاتا یا چھپتا ہے۔ اور جو شخص اسلام کا انکار کرتا ہے اس کو غیر مسلم (Non-Muslim) کہتے ہیں۔

### ”کافر“ کی اصطلاح گالی نہیں

اگر کوئی غیر مسلم خود کو ”غیر مسلم“ یا ”کافر“ کہے جانے کو گالی سمجھتا ہے، جس کا مطلب ایک ہی ہے، تو یہ اس کی اسلام کے بارے میں غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ اسے اسلام اور اسلامی اصطلاحات کو سمجھنے کے صحیح ذرائع تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ”کافر“ کہنے جانے کو گالی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ”غیر مسلم“ یا ”کافر“ کے الفاظ گالی نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے مابین محض خط امتیاز کھینچنے والی اصطلاحات ہیں۔ اس میں تحریر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ فرق و امتیاز قائم کرنے والی ایک معروف اصطلاح کو گالی قرار دینا

قلتِ علم کے علاوہ سو فہم کی دلیل ہے۔<sup>①</sup>

① قرآن نے کسی غیر مسلم کو گالی نہیں دی بلکہ قرآن نے توہر غیر مسلم کو اس کے اصل مذہب کا لحاظ کرتے ہوئے مخاطب کیا ہے، جیسے یہود، نصاری، مجوہ اور صابی ان سب کو نبی آخر الزمان ﷺ کی نبوت اور رسالت تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ”کافر“ کے لفظ سے بھی مخاطب کیا ہے۔ اگر یہ گالی ہوتا تو اہل عرب خصوصاً قریش اس پر اعتراض اٹھاتے کہ یہ قرآن ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہم کیوں اس کی بات کو تسلیم کریں۔ قرآن میں دو جگہوں پر ایمان والوں کے ساتھ یہودیوں، نصرانیوں اور صابیوں کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں صاحب فضیلت وہی ہے جو اس کے احکام بجالائے ورنہ اپنے آپ کو مون کھلانے والا بھی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔

حصہ  
دوم

■ اسلام سے قدرے واقف غیر مسلموں کے خصوص سوالات

## کیا موجودہ قرآن اصلی ہے؟

”کیا ایسا نہیں کہ قرآن کے متعدد نسخے موجود تھے جنہیں حضرت عثمان رض کے حکم سے جلا ڈالا گیا اور صرف ایک نسخہ باقی رہنے دیا گیا اور اسی طرح کیا یہ درست نہیں کہ موجودہ قرآن کریم وہ ہے جس کی تدوین حضرت عثمان رض نے کی اور یہ اصلاً وہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا گیا؟“

قرآن کریم کے بارے میں بعض بے بنیاد تصوارات میں سے ایک تصور یہ ہے کہ تیرے خلیفہ اسلام حضرت عثمان رض نے بہت سے باہم متفاہنسخوں میں سے قرآن کریم کے ایک نسخے کی توثیق اور تدوین کی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم جو آج بطور کلامِ الہی دنیا بھر کے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے، وہی قرآن کریم ہے جو حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوا۔ آپ ﷺ نے اپنی ذاتی مگرانی میں اس کی کتابت کرائی اور نفس نفیس اس کی توثیق فرمائی۔ آئیے! اس بے بنیاد تصویر کی حقیقت کا جائزہ لیں جس کے مطابق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن کی تدوین و توثیق حضرت عثمان رض کی طرف سے کی گئی۔

**نبوی سرپرستی میں تدوین قرآن**

جب بھی نبی کریم ﷺ پر وحی نازل ہوتی، سب سے پہلے آپ اسے زبانی یاد کرتے اور

اس کے بعد اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سنا تے اور ہدایت فرماتے کہ جو اسے حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گا۔ آپ بلا تاخیر کا تباہ وحی کو حکم دیتے کہ نازل ہونے والی وحی کو لکھ لیں۔ اس کے بعد بذاتِ خود ان سے سن کر اس کی توثیق فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لہذا ہر نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے اسے دھراتے تھے۔ وہ بذریعہ وحی نازل ہونے والی آیات لکھ لیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کردہ آیات کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے صحابہ سے فرماتے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے پڑھ کر سناؤ۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشاندہی فرماتے، اس کی تصحیح کرتے اور دوبارہ اس کی پڑھتاں فرماتے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی حفظ کردہ آیات قرآنی اور سورتیں ان سے سنا کرتے اور ان کی توثیق فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے پورے قرآن کریم کی کتابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی غیرانی میں انجام دی گئی۔

## ترتیب قرآن وحی الہی کے مطابق ہے

پورا قرآن کریم ساڑھے بائیس برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تدوین وحی کی زمانی ترتیب کے مطابق نہیں فرمائی۔ قرآنی آیات اور سورتوں کی ترتیب وحی الہی کے تحت قائم کی گئی اور اللہ کی جانب سے اس کا حکم حضرت جبراہیل عليہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ جب بھی نازل شدہ آیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سنائی جاتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمادیتے کہ نازل ہونے والی آیات کو کون سی سورت میں اور کن آیات کے بعد شامل کیا جائے۔

ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل شدہ حصوں کی، ترتیب آیات کے ساتھ، دہرائی فرماتے اور توثیق جبراہیل امین کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

وفات سے قبل آخری رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تصدیق و توثیق دو مرتبہ انجام دی گئی، الہذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی زندگی میں خود قرآن کریم کی مدویں اور توثیق فرمائی اور یہ مدویں توثیق قرآن مجید کی کتابت اور آپ کے متعدد صحابہؓ کرام ﷺ کے حفظ قرآن، دونوں صورتوں میں ہوئی۔

### کتابت قرآن کی تکمیل عہد نبوی میں ہوئی

نبی کریم ﷺ کی زندگی میں مکمل قرآن مجید، آیات کی صحیح ترتیب اور سیاق و سبق کے ساتھ موجود تھا، تاہم اس کی آیات الگ الگ چڑے کے لکڑوں، پتلے ہموار پھروں، درختوں کے پتوں، کھجور کی شاخوں اور اونٹ کے شانوں کی ہڈیوں وغیرہ پر تحریر کی گئی تھیں۔ آپ ﷺ کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر مختلف اشیاء پر لکھے گئے قرآن کے حصوں کو ایک ہی چیز پر تحریر کر کے یکجا کر دیا گیا اور یہ اوراق کی صورت میں تھا۔ اور ان اوراق کو ڈوریوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تاکہ جمع شدہ قرآن کا کوئی حصہ گم نہ ہونے پائے۔ قرآن پاک کا یہ نسخہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا حتیٰ کہ انہوں نے وفات پائی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ان کے پاس تھا، پھر یہ نسخہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی تحویل میں رہا لیکن اس کی اشاعت نہیں ہوئی۔<sup>①</sup>

### نقول قرآن

تیسرا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کے بعض الفاظ کے املا اور تلفظ کے بارے میں اختلاف نے سراہیا۔ املا اور تلفظ کے اختلاف سے معنی پر کوئی اثر نہ پڑتا تھا مگر

<sup>①</sup> صحیح البخاری، فضائل القرآن، باب جمع القرآن، حدیث: 4986

نومسلم عجمیوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہو گئی۔ ہر جگہ لوگ اپنی قراءات کو صحیح اور دوسروں کی قراءات کو غلط قرار دینے لگے، اسی لیے حضرت عثمان بن عفی نے ام المؤمنین حضرت خصہ شیعہ سے قرآن مجید کا اصل نسخہ مستعار لیا جس کے متن کی توثیق نبی ﷺ نے فرمائی تھی۔ حضرت عثمان بن عفی نے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق قرآن کی کتابت کرنے والے چار صحابوں کو، جن کی قیادت زید بن ثابت شیعہ کے سپرد ہوئی، یہ حکم دیا کہ وہ مکمل قرآن مجید کی متعدد نقول تیار کریں۔ حضرت عثمان بن عفی نے یہ نقول مسلمانوں کے بڑے بڑے مرکز میں بھجوادیں۔

بعض لوگوں کے پاس قرآن کے بعض حصوں کے ذاتی مجموعے موجود تھے۔ عین ممکن تھا کہ یہ نامکمل ہوں اور ان میں غلطیاں بھی موجود ہوں، چنانچہ حضرت عثمان بن عفی نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ایسی تمام نقول نذر آتش کر دیں جو اصل نسخہ قرآنی سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں تاکہ قرآن کا اصل متن محفوظ کیا جاسکے۔ نبی گریم ﷺ کے توثیق شدہ اصل قرآن کے متن سے نقل کردہ قرآن کی دو ایسی نقول آج بھی دستیاب ہیں۔ ان میں ایک تاشقند (ازبکستان) کے عجائب گھر میں اور دوسری استنبول (ترکی) کے توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔

## اعراب قرآن

قرآن مجید کے اصل مسودے میں حرکات اور اعراب کی علامتیں ظاہر نہیں کی گئی تھیں۔ ان میں تین اہم علمات کو اردو زبان میں زبر، زیر، پیش اور عربی میں فتح، ضمہ اور کسرہ کہا جاتا ہے۔ شد، مد اور جزم وغیرہ ان کے علاوہ ہیں۔ عربوں کو قرآن مجید کے صحیح تلفظ کی ادائیگی کے لیے ان علامات کی کوئی حاجت نہیں تھی کیونکہ عربی ان کی مادری زبان تھی، تاہم غیر عرب مسلمانوں کے لیے اعراب کے بغیر قرآن کی صحیح تلاوت مشکل تھی، چنانچہ یہ علامتیں بنوامیہ

کے پانچویں خلیفہ عبدالملک بن مروان کے عہد (66ھ تا 86ھ بمقابلہ 685ء تا 705ء) اور عراق میں حاجج کی گورنری کے دور میں قرآنی رسم الخط میں شامل کی گئیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا موجودہ متن جس میں حرکات اور اعراب شامل ہیں، نبی گریم ﷺ کے دور کا اصل قرآن نہیں ہے لیکن وہ اس حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ قرآن کا لغوی مطلب تلاوت یا بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے، لہذا قطع نظر اس سے کہ رسم الخط مختلف ہے یا یہ کہ اس میں حرکات وغیرہ شامل کردی گئی ہیں، اہم بات قرآن کریم کی تلاوت کی صحت ہے۔ اگر عربی متن اور اس کا تلفظ وہی ہے جو ابتداء میں تھا تو لازمی طور پر اس کے معانی بھی وہی رہیں گے۔

## حافظت قرآن سر

اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ⑨

”بلاشہم ہی نے یہ ذکر (قرآن) اتنا رہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“<sup>①</sup>

## اللہ ایک ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں؟

”قرآن مجید میں جہاں اللہ کلام کرتا ہے وہاں لفظ نَحْنُ ”هم“ استعمال کیا گیا ہے، تو کیا اسلام متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتا ہے؟“

اسلام سختی کے ساتھ توحید کا مذہب ہے۔ یہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اور اس بارے میں کوئی مصالحت گوارانہیں کرتا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ ایک ہے اور اپنی صفات میں بے مثل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اکثر اپنے بارے میں لفظ نَحْنُ (هم) استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان ایک سے زیادہ معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

### جمع کے صینے کی دو اقسام

متعدد زبانوں میں جمع کے صینے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عددی جمع کا صیغہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیر بحث چیز تعداد میں ایک سے زیادہ ہے۔ جمع کا دوسرا صیغہ احترام کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ انگریزی زبان میں ملکہ انگلستان اپنا ذکر ”آئی“ (I) کی جگہ ”وی“ (We) کے لفظ سے کرتی ہے۔ یہ انداز تخطیب رائل پلورل (Royal Plural) یعنی ”شاہی صیغہ جمع“ کے الفاظ سے معروف ہے۔

بھارت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی ہندی میں کہا کرتے تھے: ”هم دیکھنا چاہتے ہیں،“ گویا ہندی اور اردو میں ”ہم“، رائل پلورل ہے۔

اسی طرح عربی میں جب اللہ قرآن میں اپنا ذکر کرتا ہے تو وہ اکثر عربی لفظ نحنُ استعمال فرماتا ہے۔ یہ لفظ عدد کی جمع کو نہیں بلکہ احترامی جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ توحید اسلام کے ستوں میں سے ایک ستوں ہے۔ ایک اور صرف ایک معہود حقیقی کا وجود اور اس کا بے مثل ہونا وہ مضامین ہیں جن کا قرآن مجید میں متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ اخلاص میں

ارشاد ہوا:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ①

”کہہ دیجیے: وہ اللہ ایک ہے۔“ ①

WWW. DEENEKHALIS.COM

WWW. RAHEHAQ. COM

برائے ہر بانی اس کتاب کی ہارڈ کاپی ملکیتہ داراللہ  
سے خرید رخیہ میں اور اپنے دوستوں حانتے والوں  
کو یہ یہ کریں ۔

## کیا تنسخ آیات غلطی کی اصلاح ہے؟

”مسلمان تنسخ آیات کے تصور پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بعض ابتدائی آیات قرآنی کو بعد میں اترنے والی آیات کے ذریعے سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ کیا اس سے یہ مطلب اخذ کیا جاسکتا ہے کہ (نعوذ باللہ) اللہ نے ایک غلطی کی اور بعد ازاں اس کی تصحیح کر لی؟“

قرآن مجید اس مسئلے کو حسب ذیل آیت میں بیان کرتا ہے:  
 ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِّهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۱۷)

”ہم جو کوئی آیت منسوخ کرتے یا اسے بھلوادیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی (آیت) لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“<sup>①</sup>  
 سورہ نحل کی آیت نمبر ۱۶ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔  
 عربی لفظ ”آیت“ کا لغوی مطلب علامت، مصرع یا جملہ ہے اور اس سے مراد وہ بھی ہے۔ قرآن کی اس آیت کی تعبیر و مختلف طریقوں سے کی جاسکتی ہے:

وہ آیات جو منسوخ کر دی گئیں ان سے مراد یا تو وہ وحی ہے جو قرآن سے پہلے نازل کی گئی، مثلاً: تورات، زبور اور انجیل کی اصل وحی کی شکل میں اور مذکورہ بالا آیت کا مطلب ہو گا کہ وہ سابقہ کلام وحی کو فراموش نہیں ہونے دیتا بلکہ اسے بہتر یا کیساں کلام سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تورات، زبور اور انجیل کی جگہ قرآن مجید نے لے لی ہے۔

اگر ہم مذکورہ بالا قرآنی آیت میں عربی لفظ ”آیت“ سے مراد آیات قرآنی لیں اور سابقہ کتب وحی نہ لیں تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ کوئی آیت قرآنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک منسوخ نہیں کی گئی جب تک اسے کسی بہتر یا ویسی ہی آیت سے تبدیل نہیں کر دیا گیا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ بعض قرآنی آیات جو پہلے نازل کی گئی تھیں انہیں بعد میں نازل ہونے والی آیات سے تبدیل کر دیا گیا۔ میں ان دونوں تعبیرات سےاتفاق کرتا ہوں۔

بعض مسلمان اور اکثر غیر مسلم دوسری تعبیر سے غلط طور پر یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض ابتدائی آیات منسوخ کر دی گئی تھیں اور وہ آج ہم پر لا گونہ نہیں ہوتیں کیونکہ بعد میں نازل ہونے والی آیات، یعنی ناسخ آیات نے ان کی جگہ لے لی۔ یہ گروہ یہ غلط عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ یہ آیات باہم متضاد ہیں۔ آئیے ایسی چند مثالوں کا جائزہ لیں۔

### قرآن کا چینچ سر

بعض مشرکین عرب یا الزام لگاتے تھے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے خود یہ قرآن گھٹ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عربوں کو سورہ بنی اسرائیل کی مندرجہ ذیل آیت میں چینچ کیا۔

﴿قُلْ لَّيْنَ أَجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ﴾

بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْصِي ظَاهِيرًا ﴿٦﴾

”(اے نبی!) کہہ دیجیے: اگر سب انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل بنالائیں تو وہ اس جیسا نہیں لاسکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔“<sup>①</sup>

پھر اس چیلنج کو سورہ ہود کی حسب ذیل آیت کے ذریعے سے آسان بنادیا گیا:

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَنَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورَةِ مِثْلِهِ مُفْتَرِنَاتٍ وَآدُعُوا مِنْ أَسْتَطْعُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴾<sup>③</sup>

”کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے (اپنے پاس سے) یہ (قرآن) گھڑ لیا ہے؟ (سواء نبی!) کہہ دیجیے: پھر لے آؤ تم بھی وس سوتیں ویسی ہی گھڑی ہوئی اور (مد کے لیے) بلا لو جے تم بلا سکو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔“<sup>②</sup>

بعد میں سورہ یونس کی مندرجہ ذیل آیت میں چیلنج کو آسان تر بنادیا گیا:

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَنَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِثْلِهِ وَآدُعُوا مِنْ أَسْتَطْعُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴾<sup>④</sup>

”کیا وہ (کافر) کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اسے گھڑ لیا ہے؟ (اے نبی!) کہہ دیجیے: تو تم اس جیسی ایک ہی سورت لے آؤ اور (مد کے لیے) اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔“<sup>③</sup>

آخر کار سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو مزید آسان بنادیا اور یہ کہا:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلَنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ وَآدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴾<sup>⑤</sup> فَإِنَّمَا تَفْعَلُوا وَكَنْ تَفْعَلُوا

<sup>①</sup> بنی إسراءيل: 13/11    <sup>②</sup> هود: 88/17    <sup>③</sup> یونس: 10/38

فَأَنْقُوا الْنَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلِلْحَجَارَةِ أُعَدَتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٤٦﴾

”اور اگر تم اس (کلام) کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ، اور بلا لا اپنے حمایتوں کو سوائے اللہ کے، اگر تم نچے ہو، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور تم کر بھی نہیں سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں (اور جو) کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“<sup>①</sup>

یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنجوں کو انتہائی آسان بنادیا۔ یکے بعد دیگرے نازل ہونے والی آیات قرآنی کے ذریعے سے پہلے مشرکوں کو چیلنج دیا گیا کہ وہ قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر دکھائیں، پھر ان سے کہا گیا کہ قرآن کی سورتوں جیسی دس سورتیں ہی لا کر دکھادو اور آخر میں انھیں چیلنج کیا گیا کہ چلو قرآنی سورتوں سے ملتی جلتی کوئی ایک ہی سورت پیش کردو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 23 اور 24 (جو بعد میں نازل ہوئیں) پہلی تین آیات سے متضاد ہیں۔ تضاد سے مراد ایسی دو چیزوں کا ذکر ہے جو بیک وقت موجود نہیں ہو سکتیں یا بیک وقت وجود میں نہیں آ سکتیں۔

قرآن کریم کی پہلی آیات، یعنی منسوخ آیات اب بھی کلام الہی ہیں اور ان میں بیان کردہ ہدایت آج بھی عین حق ہے۔ مثال کے طور پر یہ چیلنج کہ قرآن جیسا کلام لا کر دکھادو، آج بھی برقرار ہے، اسی طرح عین قرآن جیسی 10 سورتیں یا ایک سورت پیش کرنے کا چیلنج بھی بدستور قائم ہے اور قرآن کریم سے کسی حد تک ملتی جلتی ایک ہی سورت لانے کا چیلنج بھی برقرار ہے۔ یہ چیلنج سابقہ چیلنجوں کے منافی نہیں لیکن یہ دوسرے چیلنجوں کے مقابلے میں آسان ہے۔ اگر آخری چیلنج کا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا تو کسی شخص کے لیے باقی تین مشکل چیلنجوں کا جواب دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

فرض کیجیے میں کسی شخص کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اتنا کندہ ہن ہے کہ وہ سکول میں دسویں جماعت پاس کرنے کے قابل بھی نہیں۔ بعد ازاں میں کہتا ہوں کہ وہ پانچویں جماعت بھی پاس نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد میں مرید یہ کہتا ہوں کہ وہ تو پہلی جماعت کا امتحان بھی پاس نہیں کر سکے گا۔ آخر میں میں کہتا ہوں کہ وہ اتنا نالائق ہے کہ کے جی بھی پاس نہیں کر سکے گا جبکہ سکول میں داخلے کے لیے کے جی، یعنی کندہ گارٹن میں کامیابی لازم ہے۔ گویا بالفعل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذکورہ شخص اتنا کندہ ہن ہے کہ وہ کے جی پاس کرنے کے قابل بھی نہیں۔ میرے چاروں بیانات ایک دوسرے کی لفظی نہیں کرتے۔ لیکن میرا چوتھا بیان اس طالب علم کی ہفتی استعداد کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی طالب علم کے جی کلاس پاس نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پہلی جماعت، پانچویں جماعت یا دسویں جماعت پاس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

### حکایتِ نبی مسیح علیہ السلام

ایسی آیات کی ایک اور مثال ان آیات سے دی جاسکتی ہے جو مشیات کی بدرجہ ممانعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ مشیات کے بارے میں قرآن مجید میں پہلی وحی سورہ بقرہ کی اس آیت کی صورت میں نازل ہوئی:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْدَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْثَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

”(اے نبی!) وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے: ان دونوں (کے استعمال) میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ اور ان کا گناہ فائدے سے بہت زیادہ ہے۔“<sup>①</sup>

نشیات کے بارے میں نازل ہونے والی اس سے پہلی آیت سورہ نساء میں شامل ہے جسے  
یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الْمُنَجَّةَ وَأَنْتُمْ شُكَرٌ إِذْ تَعْلَمُوْا مَا  
نَهُولُونَ﴾

”اے ایمان والو! تم اس وقت نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے میں مت ہو،  
یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو۔“<sup>①</sup>

نشیات کے بارے میں نازل ہونے والی آخری آیت سورہ مائدہ کی حسب ذیل آیت ہے:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَنْثُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَضَابُ وَالْأَذَلُّمُ يَرْجِعُونَ مِنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطَنِ فَاجْتَبَوْهُ لَعْلَكُمْ تُفَلِّحُونَ﴾<sup>②</sup>

”اے ایمان والو! بے شک شراب اور جوا اور آستانا اور فال نکالنے کے تیرنا پاک  
شیطانی عمل ہیں، سوان سے بچوتا کہ تم فلاخ پاؤ۔“<sup>③</sup>

قرآن کریم ساڑھے بائیس برس کے عرصے میں نازل ہوا اور معاشرے میں کی جانے  
والی بیشتر اصلاحات بتدریج نافذ کی گئیں۔ اس کا مقصد نئے قوانین پر عملدرآمد میں لوگوں  
کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تھا کیونکہ معاشرے میں اچانک تبدیلی ہمیشہ بغاوت اور افراتفری  
پر مشتمل ہوتی ہے۔

نشیات کی ممانعت تین مراحل میں کی گئی۔ اس سلسلے میں پہلی وحی میں صرف یہ ذکر فرمایا گیا  
کہ نشہ آور اشیاء کا استعمال بہت بڑا گناہ ہے اور ان میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان  
کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس سے اگلی وحی میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع فرمادیا گیا۔ اس  
سے یہ ظاہر ہوا کہ کسی مسلمان کو دن کے اوقات میں کوئی نشہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر

مسلمان پر دن میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ جب رات کو کوئی شخص نماز ادا نہ کر رہا ہو تو اسے نشہ کرنے کی اجازت ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ چاہے تو نشہ کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ قرآن اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ اگر اس آیت میں یہ کہا گیا ہوتا کہ جب کوئی شخص نماز نہ پڑھ رہا ہو تو وہ شراب پی سکتا ہے، تب یہ بات بلاشبہ مبنی بر تضاد ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت موزوں الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ آخر میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے نشہ آور چیزوں کی ممانعت کر دی گئی۔

اس سے ظاہر ہوا کہ تینوں آیات ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں اگر ان میں باہمی تضاد ہوتا تو بیک وقت تینوں آیات پر عمل کرنا ممکن نہ ہوتا۔ چونکہ ہر مسلمان سے قرآن مجید کی ہر آیت کو مانے کی توقع کی جاتی ہے، اس لیے جب وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 پر، جو آخر میں نازل ہوئی، عمل کرتا ہے تو سابقہ دو آیات سے بھی خود بخود اتفاق اور ان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ فرض کیجیے! میں کہتا ہوں کہ میں لاس انگلیس میں نہیں رہتا۔ بعد میں، میں کہتا ہوں کہ میں کیلیفورنیا میں نہیں رہتا۔ اور آخر میں، میں یہ بیان دیتا ہوں کہ میں ریاست ہائے متحده امریکہ میں نہیں رہتا۔ اس سے یہ تیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تینوں بیانات باہم متضاد ہیں، حالانکہ ہر بیان پہلے بیان کے مقابلے میں زیادہ معلومات فراہم کرتا ہے، لہذا صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں ریاست ہائے متحده امریکہ میں نہیں رہتا، خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ میں کیلیفورنیا یا لاس انگلیس میں بھی نہیں رہتا، اسی طرح جب شراب کی مکمل ممانعت کر دی گئی تو ظاہر ہے نشے کی حالت میں نماز ادا کرنا بھی منوع ٹھہرا اور یہ بات بھی حق ثابت ہوئی کہ نشہ آور اشیاء کا استعمال بڑا گناہ ہے اور اس میں انسانوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔

## قرآن مجید میں تضاد نہیں

تفہیخ آیات کے نظریے سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے، اس لیے کہ بیک وقت قرآن کریم کی تمام آیات پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اگر قرآن میں تضاد ہو تو یہ کلامِ الہی نہیں ہو سکتا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْتِلَافًا﴾

﴿كَثِيرًا﴾ (۸۲)

”کیا پھر وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو وہ اس میں یقیناً بہت اختلاف پاتے۔“<sup>①</sup>

WWW. DEENEKHALIS.COM

WWW. RAHEHAQ . COM

## کیا حروفِ مقطعات بے فائدہ ہیں؟

”قرآن مجید کی بعض سورتیں آلم، خم اور یس وغیرہ سے کیوں شروع ہوتی ہیں؟ ان حروف یا تراکیب کی اہمیت کیا ہے؟“

آلم یس، خم وغیرہ کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ عربی حروف تھجی میں کل 29 حروف شامل ہیں (بشرطیکہ ہمزہ اور الف کو دو الگ الگ حروف شمار کیا جائے) اور قرآن مجید کی کل 29 سورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ حروف مقطعات بعض اوقات واحد حرف اور بعض اوقات ایک سے پانچ حروف تک ترکیب کی صورت میں ہوتے ہیں۔

### حرفت مقطعات

- ① تین سورتوں کا آغاز صرف ایک حرف سے ہوتا ہے:
- سورت ص 38 ویں سورت ہے جو حرف ص سے شروع ہوتی ہے۔
- 50 ویں سورت ق حرف ق سے شروع ہوتی ہے۔
- 68 ویں سورت ن یا القلم حرف ن سے شروع ہوتی ہے۔

② وہ سورتوں سے قبل دو حروفِ مقطعات آتے ہیں:

- 20 ویں سورت طہ انھی حروفِ مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔
- 27 ویں سورت النمل کا آغاز طس کے حروف سے ہوتا ہے۔
- 36 ویں سورت یس کا آغاز یس کے حروف سے شروع ہوتی ہے۔
- 40 ویں سے 46 ویں تک مسلسل سات سورتیں خم (ح م) کے حروفِ مقطعات سے شروع ہوتی ہیں:

- 40 ویں سورت الغافر یا المؤمن
- 41 ویں سورت خم السجدة
- 42 ویں سورت الشوری
- 43 ویں سورت الزخرف
- 44 ویں سورت الدخان
- 45 ویں سورت الجاثیة
- 46 ویں سورت الأحقاف

③ 14 سورتوں کا تین تین حروفِ مقطعات سے آغاز ہوتا ہے۔

حسب ذیل چھ سورتیں الف لم (اللَّمْ) سے شروع ہوتی ہیں:

- دوسری سورت البقرة
- تیسرا سورت آل عمران
- 14 ویں سورت العنکبوت
- 30 ویں سورت الروم
- 31 ویں سورت لقمان

### ■ 32 ویں سورت السجدة

حروف مقطعات (آل) 10 ویں سے 15 ویں تک پانچ سورتوں سے قبل آتے ہیں:

■ 10 ویں سورت یونس

■ 11 ویں سورت هود

■ 12 ویں سورت یوسف

■ 14 ویں سورت إِبْرَاهِيم

■ 15 ویں سورت الحجر

طسم (ط س م) کے حروف مقطعات و سورتوں میں آتے ہیں:

■ 26 ویں سورت الشعراء

■ 28 ویں سورت القصص

④ چار حروف مقطعات کی ترکیب صرف دو دفعہ آئی ہے:

■ ساتویں سورت الأعراف: الْمَصَ (آل م ص)

■ تیرھویں سورت الرعد: الْمَرَ (آل م ر)

⑤ پانچ حروف مقطعات کی ترکیب بھی دو دفعہ استعمال ہوئی ہے:

■ 19 ویں سورت مریم كَهِيْعَصَ (ك ه ی ع ص) سے شروع ہوتی ہے۔

■ 42 ویں سورت الشوریٰ کا آغاز حروف مقطعات کی دو ترکیبوں سے ہوتا ہے:

دو حروف کی ترکیب حَمَ تین حروف پر مشتمل ترکیب عَسَقَ

### حروف مقطعات کے ترتیب

ان حروف کے معانی اور مقاصد کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا مختلف ادوار

## کیا حروف مقطعات بے فائدہ ہیں؟

- میں مسلم علماء نے ان کی مختلف توضیحات پیش کی ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں:
- یہ حروف بعض جملوں اور الفاظ کی مختصر صورت ہو سکتے ہیں، جیسے الہ سے مراد اللہ اعلم (اللہ سب سے زیادہ جانے والا ہے) اور نے سے مراد ”نور“ ہو سکتا ہے۔
  - یہ حروف اختصار کی صورتیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ یا کسی اور چیز کی علامتیں اور نام ہیں۔
  - یہ حروف قافیہ بندی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔
  - ان حروف کی کوئی عددی اہمیت بھی ہے چونکہ سامی زبانوں کے حروف عددی قدر بھی رکھتے تھے۔
  - یہ حروف نبی کریم ﷺ (اور بعد میں سامعین) کی توجہ مبذول کرانے کے لیے استعمال کیے گئے۔
- حروف مقطعات کی مہترین تعبیر

مختلف علماء کی طرف سے پیش کردہ تعبیرات میں سے مستند تعبیر حسب ذیل ہے جس کی تائید امام ابن کثیر، رخشری اور ابن تیمیہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے بھی کی گئی ہے:

انسانی جسم کا مرکب کائنات میں پائے جانے والے مختلف عناصر سے تیار کیا گیا ہے۔ مٹی اور گارا بھی انھی بنیادی عناصر کا آمیزہ ہیں۔ لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ انسان بالکل مٹی جیسا ہے۔ ہم سب ان عناصر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں اور ہم ان میں چند گلین پانی ڈال سکتے ہیں جس سے انسانی جسم تشکیل پاتا ہے مگر اس سے ہم زندگی تخلیق نہیں کر سکتے۔ ہمیں انسانی جسم میں شامل عناصر کا علم ہے لیکن اس کے باوجود جب ہم سے رازِ زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہمارے پاس اظہار حیرت کے سوا کچھ نہیں

ہوتا، اسی طرح قرآن مجید ان لوگوں سے خطاب کرتا ہے جو اس کے اُلوٰہی احکام کو نہیں مانتے۔ قرآن ان سے کہتا ہے کہ یہ کتاب تمہاری اپنی زبان میں ہے (جس پر عرب بہت فخر کرتے تھے) یہ انھی حروف پر مشتمل ہے جنھیں عرب بڑی فصاحت سے اظہار و بیان کے لیے استعمال کرتے تھے۔ عرب اپنی زبان پر بہت نازاں تھے اور جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، عربی زبان اپنے عروج پر تھی۔ حروف مقطعات: الـ، يـ، حـمـ وغیرہ کے استعمال سے (انگریزی میں اے، بی، ڈی کہہ سکتے ہیں) قرآن بنی نوں انسان کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر انھیں اس کے مستند ہونے میں شک ہے تو وہ حسن فصاحت میں قرآن سے ملتی جلتی کم از کم ایک سورت ہی لکھ کر لے آئیں۔

ابتداء میں قرآن کریم تمام انسانوں اور جنوں کو چیلنج دیتا ہے کہ تم قرآن جیسا کلام لا کر دکھاؤ، پھر مزید کہتا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کی امداد کر کے بھی یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ یہ چیلنج سورۃ الاسراء (بنی اسرائیل) کی 88 ویں آیت اور سورۃ طور کی 34 ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ چیلنج گیا رہوں سوت ہود کی 13 ویں آیت میں دہرا یا گیا اور فرمایا گیا ہے کہ اس جیسی 10 سورتیں تیار کر کے دکھاؤ۔ بعد ازاں دسویں سورت یوس کی آیت 38 میں اس جیسی ایک سورت بنالانے کو کہا گیا اور آخر کار سورۃ البقرہ کی آیات 23 اور 24 میں آسان ترین چیلنج دیا گیا:

﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَأَدْعُوا شَهِيدًا أَكْمَمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ ۲۳ ۚ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأَتَأْتُو النَّارَ أَلَّىٰ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجَمَارَةُ أُعَذَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ ۲۴ ۚ﴾

”اور اگر تم اس (کلام) کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلا بلا اُگر تم

سچ ہو، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور تم کر بھی نہیں سکتے، تو اس آگ سے بچ جس کا لیندھن انسان اور پتھر ہیں (اور جو) کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔<sup>①</sup>

دو ہنرمندوں کی مہارت کے تقابل کے لیے انھیں لازماً ایک ہی خام مال کے نمونے فراہم کیے جانے چاہئیں اور پھر ایک ہی کام کے ذریعے سے ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ عربی زبان کا خام مواد بھی حروف الـ، یس وغیرہ (جیسے انگریزی میں اے بی سی ڈی) ہیں۔ قرآن کریم کی زبان کی مجرموں فطرت صرف یہی نہیں کہ یہ کلام الہی ہے بلکہ اس کی عظمت اس حقیقت میں بھی مضر ہے کہ اگرچہ یہ انھی حروف سے وجود میں آئی ہے جن پر مشرکین فخر کرتے تھے لیکن اس کے مقابلے کی کوئی عبارت پیش نہیں کی جاسکی۔

### قرآن مجید کا مجرموں وصف

عرب اپنی خطابت، فصاحت اور قدرت کلام کی وجہ سے معروف ہیں، جیسے ہمیں انسانی جسم کے ترکیبی عناصر معلوم ہیں اور ہم انھیں حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کے حروف، جیسے: الـ سے بھی ہم خوب واقف ہیں اور انھیں اکثر الفاظ بنانے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انسانی جسم کے ترکیبی عناصر کا علم حاصل ہونے کے باوجودہ، زندگی کی تخلیق ہمارے بس میں نہیں ہے، اسی طرح جن حروف پر قرآن مشتمل ہے ان کا علم رکھنے کے باوجودہم قرآن کریم کی فصاحت اور حسن کلام پر گرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ یوں قرآن بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کلامِ الہی ہے۔

اسی لیے سورہ بقرہ کے حروف مقطّعات کے فوراً بعد جو آیت ہے اس میں مجذہ قرآن اور کلامِ الہی کی ثقاہت کا ذکر کیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿الَّمَّا ۝ ۱ ۝ ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلنَّاسِ ۝ ۲﴾  
”یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پہیز گاروں کے لیے ہدایت ہے۔“<sup>①</sup>

## کیا زمین چھپی اور ہموار ہے؟

”قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنادیا گیا ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ زمین چھپی اور ہموار ہے۔ کیا یہ بات مسلمہ جدید سائنسی حقائق کے منافی نہیں؟“

اس سوال میں قرآن کریم کی سورہ نوح کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ إِسَاطِاً﴾ ⑯

”اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔“ ①

لیکن مندرجہ بالا آیت کا جملہ مکمل نہیں۔ جملہ اس سے اگلی آیت میں جاری ہے جو چھپلی آیت کی وضاحت کرتا ہے۔ اس میں ارشاد ہے:

﴿لَتَسْتَلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَجَاجًا﴾ ⑰

”تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چل سکو۔“ ②

اسی طرح کا ایک پیغام سورہ طہ میں دہرایا گیا ہے:

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾

① نوح: 71/19 ② نوح: 71/20

”وَهُذَا جِسْ نَتَحْمَارَ لَيْزِ مِنْ كُوچْخُونَا بَنِيَا اور تَحْمَارَ لَيْنَ كَلِيَ اسْ مِنْ رَاسْتَتْ بَنَيَ“<sup>①</sup>

زمین کی بالائی تا یا قشر ارض کی موٹائی 30 میل سے بھی کم ہے اور اگر اس کا موازنہ زمین کے نصف قطر سے کیا جائے جس کی لمبائی تقریباً 3750 میل ہے تو قشر ارض بہت ہی باریک معلوم ہوتا۔ زیادہ گہرائی میں واقع زمین کی تہیں بہت گرم، سیال اور ہر قسم کی زندگی کے لیے ناسازگار ہیں۔ قشر ارض زمین کا ٹھوس صورت اختیار کر لینے والا وہ خول ہے جس پر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لہذا قرآن مجید بجا طور پر اس کو ایک بچھونے یا قالین سے مشابہ قرار دیتا ہے تاکہ ہم اس کی شاہراہوں اور راستوں پر سفر کر سکیں۔

### قرآن کے مطابق زمین موجود نہیں

قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ زمین مستوی یا چپٹی ہے۔ قرآن صرف قشر زمین کو قالین سے تشبیہ دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک قالین صرف قطعی ہموار زمین ہی پر بچھایا جا سکتا ہے، حالانکہ کرۂ ارض جیسے بڑے کرے پر بھی قالین بچھانا ممکن ہے اور اس کا مظاہرہ زمین کے گلوب کا ایک بہت بڑا نمونہ لے کر اور اس پر قالین بچھا کر بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ قالین بالعموم ایک ایسی سطح پر بچھایا جاتا ہے جس پر بصورت دیگر سہولت سے نہ چلا جا سکتا ہو۔ قرآن مجید قشر زمین کا ذکر بطور قالین کرتا ہے جس کے نیچے گرم، سیال اور مانع حیات ماحول پایا جاتا ہے۔ قشر زمین کی صورت میں بچھائے گئے قالین کے بغیر بنی نوع انسان کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا، لہذا قرآن کریم کا بیان نہ صرف عین منطق کے مطابق ہے بلکہ اس میں ایک ایسی حقیقت بھی بیان کردی گئی ہے جسے صدیوں بعد ماہرین ارضیات نے دریافت کیا۔

## کشادہ فرش ارضی

قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ زمین بچھادی گئی ہے۔ حکم رباني ہے:

﴿وَالْأَرْضَ فَرَّشْتَهَا فِنْعَمَ الْمَهْدُونَ ﴾ ④

”هم نے زمین کو (قالین کی طرح) بچھادیا ہے، سو ہم کیسے اچھے بچانے والے ہیں۔“<sup>①</sup>

اسی طرح قرآن کریم کی متعدد دوسری آیات میں زمین کو کشادہ پھونا یا فرش کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَلَّا تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَدًا ⑥ وَأَلْجِبَالَ أَوْنَادًا ⑦﴾

”کیا ہم نے زمین کو ایک فرش نہیں بنایا؟ اور پہاڑوں کو (اس میں) میخیں (نہیں بنایا؟)<sup>②</sup>“

قرآن کریم کی کسی آیت میں معمولی سا اشارہ بھی نہیں کیا گیا کہ زمین چٹپی اور ہموار ہے۔ آیات سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زمین وسیع اور کشادہ ہے اور اس وسعت و کشادگی کی وجہ بیان کردی گئی ہے۔ قرآن عظیم میں ارشاد ہے:

﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ إِيمَنُوا إِنَّ أَرْضَى وَسَعَةً فَإِنَّى فَاعْمَدُونِ ⑤﴾

”اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو! بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، پس میری ہی عبادت کرو۔“<sup>③</sup>

① الذاريات: 48/51      ② النبا: 7,6/78

③ العنكبوت: 29/56۔ الہذا کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ وہ نیکی نہیں کر سکا اور وہ برائیوں کے ارتکاب پر مجبور تھا کیونکہ اس کے اردو گرد کا ماحول اور حالات سازگار نہیں تھے۔

## کیا قرآن، بابل کی نقل ہے؟

”کیا یہ درست نہیں کہ محمد ﷺ نے قرآن، بابل سے نقل کیا ہے؟“

بہت سے ناقدین یہ الزام لگاتے ہیں کہ محمد ﷺ نے یہ قرآن خود تصنیف نہیں کیا بلکہ انہوں نے اسے دوسرے انسانی ذرائع یا سابقہ الہامی کتب سے اخذ کیا ہے۔ ان کے اعتراضات اس نوع کے ہیں:

### دریں الہام کی حقیقت

بعض مشرکین نے نبی کریم ﷺ پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے قرآن مکہ کے نواح میں مقیم ایک روئی لوہار سے سیکھا جو مذہب ایسا می تھا۔ نبی کریم ﷺ اکثر اسے کام کرتے ہوئے دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ قرآن ہی اس الزام کو مسترد کرنے کے لیے کافی تھی۔ سورہ نحل میں فرمایا گیا:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْهِدُونَ إِلَيْهِ أَغْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَفِيٌّ مُبِينٌ﴾ (۱۰)

”اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں (یقیناً) اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ اس

شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں، عجمی ہے جبکہ یہ (قرآن) تو فصح  
عربی زبان ہے۔<sup>①</sup>

ایک ایسا شخص جس کی مادری زبان غیر ملکی تھی اور جو عربی کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں  
بمشکل عربی میں بات کر سکتا تھا، قرآن مجید کا ماغذہ کیسے بن سکتا تھا جو خالص، فصح و بلیغ اور شستہ  
عربی زبان میں ہے؟ یہ سمجھنا کہ کسی لوہار نے (نعوذ بالله) نبی اکرم ﷺ کو قرآن سکھایا، ایسے  
ہی ہے جیسے کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ چین سے انگلستان نقل مکانی کرنے والے ایک شخص نے جو  
مناسب انگریزی بھی نہیں جانتا تھا، شیکسپیر کو پڑھایا لکھایا۔

### ورقه بن نوفل کا کروار سر

محمد ﷺ نے خدیجہ ؓ کے رشتے دار ورقہ سے پڑھا، حالانکہ محمد ﷺ کے یہودی اور  
عیسائی علماء سے روابط بہت محدود تھے۔ آپ ﷺ جس نمایاں ترین عیسائی سے واقفیت رکھتے  
تھے، وہ ورقہ بن نوفل نامی ناپینا شخص تھے جو نبی اکرم ﷺ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت  
خدیجہ ؓ کے ایک رشتے دار تھے۔ وہ اگرچہ عربی لسان تھے لیکن انہوں نے عیسائی مذہب  
اپنالیا تھا اور وہ عہد نامہ جدید سے اچھے خاصے واقف تھے۔ نبی اکرم ﷺ کی صرف دوبار ان  
سے ملاقات ہوئی۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب ورقہ (اعلان نبوت سے قبل) کعبۃ اللہ میں  
عبادت کر رہے تھے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی پیشانی پر وفور محبت سے بوسہ دیا۔ دوسری  
ملاقات اس وقت ہوئی جب نبی اکرم ﷺ پہلی وجی کے نزول کے بعد ورقہ بن نوفل سے ملنے  
گئے۔ اس واقعے کے تین سال بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا جبکہ نزول کا سلسلہ تقریباً 23 برس جاری  
رہا۔ یہ مفروضہ کہ قرآن مجید کی وجی کا ذریعہ ورقہ بن نوفل تھے، قطعی مضمکہ خیز مفروضہ ہے۔

## اہل کتاب سے مدھیٰ بخشیں سر

یہ بات درست ہے کہ نبی کریم ﷺ کی یہودیوں اور عیسائیوں سے بخشیں ہوئیں لیکن یہ بخشیں نزول وحی کے 13 برس سے زیادہ عرصے کے بعد مدینہ منورہ میں وقوع پذیر ہوئیں۔ یہ الزام کہ یہی یہودی اور عیسائی قرآن کا مأخذ تھے، ایک یہودہ الزام ہے کیونکہ محمد رسول اللہ ﷺ تو ان بخشوں میں ایک معلم اور مبلغ کا کردار ادا کر رہے تھے اور انھیں قبول اسلام کی دعوت دیتے ہوئے یہ نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ توحید کے بارے میں اپنے دین کی حقیقی تعلیمات سے مخرف ہو گئے ہیں۔ ان میں سے متعدد یہودیوں اور عیسائیوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔

## چیخبر ﷺ کا بھیبوں سے قرآن مجید سیکھنا سر

تمام دستیاب تاریخی شواہد سے یہ ثابت ہے کہ محمد ﷺ نے نبوت سے قبل کمہ سے باہر کے صرف تین سفر کیے:

① 9 برس کی عمر میں آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ یثرب (مدینہ) تشریف لے گئے۔

② 9 اور 12 برس کی عمر کے درمیان آپ اپنے پچھا ابو طالب کے ہمراہ تجارتی سفر پر شام گئے۔

③ 25 برس کی عمر میں آپ حضرت خدیجہ ؓ کا تجارتی قافلہ لے کر شام تشریف لے گئے۔

یہ فرض کر لینا کہ مذکورہ تین سفروں کے دوران میں عیسائیوں اور یہودیوں سے عمومی گفتگوؤں اور ملاقاتوں کے نتیجے میں قرآن وجود میں آگیا، ایک بے نیاد اور خیالی بات ہے۔

نبی مکرم ﷺ نے قرآن کریم کو یہودیوں اور عیسائیوں سے ہرگز نہیں سیکھا۔ نبی ﷺ کی روزمرہ کی زندگی ایک کھلی کتاب کے مانند تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک وحی کے ذریعے سے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نبی ﷺ کو اپنے گھر میں علیحدگی (پرائیولیتی) کا موقع دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَءِ الْمُجَرَّاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ④ وَلَوْ  
أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤﴾

”بے شک جو لوگ آپ کو جوروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اور اگر بے شک وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ اور اللہ بہت بخششے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔“<sup>①</sup>

اگر نبی کریم ﷺ ایسے لوگوں سے مل رہے ہوتے جو کفار کے دعوے کے مطابق انھیں وہ کلمات بتاتے تھے جنھیں وحی کے طور پر پیش کیا گیا تو یہ بات زیادہ دیریک چھپی نہ رہتی۔

قریش کے انتہائی ممتاز سردار جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی پیروی کی اور اسلام قبول کیا، اتنے ذہین اور دانشمند تھے کہ جس ذریعے سے پیغمبر ان کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اس کے متعلق اگر وہ کوئی بات مشکوک پاتے تو آسانی بھانپ سکتے تھے، پھر یہ کوئی مختصر وقت کی بات نہیں تھی۔ نبی ﷺ کی دعوت اور تحریک 23 برس تک جاری رہی۔ اس دوران میں کبھی کسی کو اس طرح کاشک نہ گزرا۔

رسول کریم ﷺ کے دشمن اپنا یہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے مسلسل ٹوہ میں لگے رہتے تھے

کہ نبی کریم ﷺ (نحوذ بالله) جھوٹے ہیں لیکن وہ اس بات کے حق میں ایک بھی مثال پیش نہ کر سکے کہ کبھی آپ نے مخصوص یہودیوں اور عیسائیوں سے کوئی خفیہ ملاقات کی ہو۔ یہ بات بھی ناقابل تصور ہے کہ کوئی شخص ایسی صورت حال قبول کر سکتا ہے کہ وہ قرآن وضع کرے لیکن اس کا کوئی کریڈٹ بھی نہ لے، لہذا تاریخی اور منطقی طور پر یہ دعویٰ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کا کوئی انسانی مأخذ تھا۔<sup>①</sup>

### مَرْءَةُ اللَّهِ لِرَبِّهِ لَكُنْهَا نَبِيُّنِيْسْ جَانِتَ تَحْتَ السُّرِّ

یہ دعویٰ کہ محمد ﷺ نے خود قرآن تصنیف کیا یا اسے دوسرے ذرائع سے نقل کیا، حضن اس ایک تاریخی حقیقت سے غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ ﷺ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس بات کی تصدیق فرماتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا:

﴿وَمَا كُثِّرَتْ نَسْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَنْهَطُهُ بِسَمِينَكَ إِذَا لَآزَنَابَ الْمُبْطَلُونَ﴾<sup>②</sup>

”اور (اے نبی!) آپ اس (قرآن) سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، (اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے“،<sup>③</sup> اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ بہت سے لوگ قرآن کے مستند ہونے پر شک کریں گے اور اسے محمد ﷺ کی ذات سے منسوب کریں گے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدی حکمت سے ایک ”آتی“ کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا تاکہ باطل پرستوں کے پاس نبی ﷺ پر شک کرنے کا کوئی معقولی

① سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے قرآن سیکھا تھا تو پھر انھیں قبول قرآن میں تامل نہیں کرنا چاہیے تھا جبکہ تاریخ شاہد ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ہی آپ کی مخالفت کی جو آج تک جاری ہے۔ (عثمان میب)

② العنکبوت : 29/48

سا جواز بھی باقی نہ رہنے دیا جائے۔ آپ ﷺ کے وشمنوں کا یہ الزام کہ آپ نے دوسرے ذرائع سے قرآن اخذ کیا اور پھر اسے خوبصورت عربی زبان میں ڈھال لیا، شاید کسی وزن کا حامل ہو سکتا تھا لیکن اس کمزور عذر کو بھی کافروں اور شک کرنے والوں پر الٹ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں اس کی دوبارہ توثیق کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿الَّذِينَ يَنْهَا عَوْتَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمِينَ الَّذِي يَحْذُوْنَهُ مَكْثُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾

”(متنی اور مومن) وہ لوگ ہیں جو اس رسول امی نبی (محمد ﷺ) کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔“<sup>①</sup>

### انی نبی ﷺ کی آمدکی پیش گوئی بابل میں

انی نبی ﷺ کی آمدکی پیش گوئی بابل کی کتاب یسعیاہ باب: 29 فقرہ: 12 میں بھی موجود ہے: ”پھر وہ کتاب اسے دیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور کہیں، اسے پڑھ اور وہ کہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔“<sup>②</sup>

قرآن کریم کم از کم چار مقامات پر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نبی کریم ﷺ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس امر کا ذکر سورہ اعراف کی آیت: 158 اور سورہ جمعہ کی آیت: 2 میں بھی کیا گیا ہے۔

### بابل کا عربی مسودہ

نبی کریم ﷺ کے دور مبارک میں بابل کا عربی زبان میں کوئی مسودہ موجود نہیں تھا۔

<sup>①</sup> الأعراف: 7/157

<sup>②</sup> کتاب مقدس، یسعیاہ: 29/12

عہد نامہ تحقیق (Old Testament) کا سب سے پہلا عربی نسخہ وہ ہے جو پادری سعادیاں گین (R.Saadias Gaon) نے 900 عیسوی میں تیار کیا، یعنی ہمارے پیارے نبی ﷺ کی رحلت کے تقریباً 250 برس بعد۔ عہد نامہ جدید (New Teslament) کا سب سے قدیم عربی نسخہ ارپنیس (Erpenius) نے ہمارے نبی ﷺ کی وفات کے تقریباً ایک ہزار سال بعد 1616 عیسوی میں شائع کیا۔

## قرآن اور بابل میں یکسانیت

قرآن اور بابل میں پائی جانے والی یکساں باتوں سے لازمی طور پر یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ اول الذکر مؤخر الذکر سے نقل کیا گیا ہے۔ فی الحقيقة یہ اس بات کی شہادت ہے کہ یہ دونوں کسی تیرے مشترک ذریعے پر منی ہیں۔ تمام صحائف رباني کا منبع ایک ہی ذات، یعنی رب کائنات ہے۔ یہود و نصاریٰ کی کتب اور ان سے بھی قدیم آسمانی صحیفوں میں انسانی ہاتھوں سے کی جانے والی تحریفات کے باوجود، ان کے بعض حصے تحریف سے محفوظ رہے ہیں اور اسی لیے وہ کئی مذاہب میں مشترک ہیں۔

یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن اور بابل میں بعض یکساں چیزیں موجود ہیں لیکن اس کی بنا پر محمد ﷺ پر یہ الزام لگانے کا کوئی جواز نہیں کہ انہوں نے بابل سے کوئی چیز نقل کی یا اس سے اخذ کر کے قرآن مرتب کیا۔ اگر یہ منطق درست ہے تو یہ میسیحیت اور یہودیت پر بھی لاگو ہوگی اور غلط طور پر یہ دعویٰ بھی کیا جاسکے گا کہ یسوع مسیح ﷺ (نحوذ باللہ) سچ نبی نہیں تھے اور انہوں نے حضن عہد نامہ تحقیق کی نقل کرنے پر اکتفا کیا۔

قرآن اور بابل کے درمیان یکساں باتیں درحقیقت اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ان کا منبع مشترک، یعنی ذات حق تعالیٰ ہے۔ یہ توحید کے بنیادی پیغام کا تسلسل ہے اور یہ مفروضہ

غلط ہے کہ بعد میں آنے والے انبیاء نے گزشتہ انبیاء کی باتیں ان سے مستعار لے لی ہیں۔ اگر کوئی امتحان میں نقل کر رہا ہو تو وہ یقیناً اپنے پرچے میں یہ نہیں لکھے گا کہ میں نے اپنے پاس بیٹھے طالب علم زید یا بکر سے نقل کی ہے جبکہ محمد رسول اللہ ﷺ گزشتہ انبیاء کرام کا احترام کرتے اور ان کی عظمت بیان کرتے ہیں اور قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مختلف انبیاء و رسول پر اللہ قادر مطلق کی طرف سے صحیفے نازل کیے گئے تھے۔

### تمام آسمانی کتابوں پر ایمان صدر

اللہ تعالیٰ کی چار کتابوں کا قرآن میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے اور مسلمان ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔

- تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام (Moses) پر بصورت الواح (تحتیاں) نازل کی گئی۔
- زبور حضرت داؤد علیہ السلام (David) پر اتری۔
- انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام (Jesus) پر نازل ہوئی۔

■ قرآن مجید وہ آخری کتاب ہے جس کا نزول اللہ کے آخری نبی اور خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ پر ہوا۔

تمام نبیوں اور تمام الہامی کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، تاہم موجودہ بائبل کے عہد نامہ عقیق کی پہلی پانچ کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہیں اور مزمایر (Psalms) حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، مزید بر اس عہد نامہ عقیق کی یہ کتابیں اور عہد نامہ جدید یا اس کی چار انجیلیں وہ تورات، زبور یا انجیل نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ موجودہ بائبل میں جزوی طور پر کلام خداوندی موجود ہو سکتا ہے لیکن یہ کتابیں یقیناً اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں۔ نہ وہ پوری طرح صحیح ہیں اور نہ ان میں

پیغمبروں پر نازل شدہ مکمل کلامِ وحی موجود ہے۔<sup>①</sup>

قرآن مجید تمام انبیاء و رسول کو ایک ہی سلسلے سے متعلق قرار دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ان سب کی نبوت کا ایک ہی نصب اعین تھا اور ان کا بنیادی پیغام بھی ایک ہی تھا۔ اسی بنا پر قرآن کریم وضاحت کرتا ہے کہ بڑے بڑے مذاہب کی بنیادی تعلیمات باہم متفاہ نہیں ہو سکتیں، باوجود اس کے مختلف نبیوں کے ماہین قابل ذکر بعد زمانی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب نبیوں کا منبع صرف ایک تھا، یعنی اللہ جو قادر مطلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ مختلف ادیان کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی ذمہ داری انبیاء پر نہیں بلکہ ان کے پیروکاروں پر عائد ہوتی ہے جو سکھائے ہوئے علم کا ایک حصہ بھول گئے، مزید برآں انہوں نے الہامی کتابوں کی غلط تعبیر کی اور ان میں تحریف بھی کرڈا تھی، الہاماً قرآن کریم کو ایک ایسی کتاب تصور نہیں کیا جاسکتا جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء ﷺ کی تعلیمات کے مقابلے میں اتاری گئی ہے۔ اس کے عکس یہ کتاب گزشتہ انبیاء کی طرف سے ان کی امتیوں کی طرف لائے گئے پیغامات کی توثیق و تصدیق اور ان کی تکمیل کرتی اور انھیں نقطہ کمال تک پہنچاتی ہے۔

قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے جس کا مطلب حق و باطل میں انتیاز کرنے کی کسوٹی یا معیار ہے اور قرآن ہی کی بنیاد پر ہم یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ سابقہ الہامی کتابوں کے کون سے حصے کو کلام الہامی تصور کیا جاسکتا ہے۔

<sup>①</sup> چار انجیلوں (Gospels) یعنی انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا اور انجیل مرقس کی موجودگی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کی تصنیف کی ہوئی ہیں اور حضرت عیسیٰ ﷺ پر نازل شدہ انجیل کا اب اپنی اصلی صورت میں کوئی وجود نہیں۔ یاد رہے متی (St,Mthew)، لوقا (St,Luke) یوحنا (St,John) اور مرقس (St,Mark) حضرت عیسیٰ ﷺ کے حواری تھے۔ (محسن فارانی)

## قرآن اور بابل کے درمیان سائنسی بنیاد پر مقابلہ

قرآن مجید اور بابل کے سرسری مطالعے میں آپ کو متعدد ایسے نکات نظر آئیں گے جو دونوں میں قطعی یکساں معلوم ہوتے ہیں لیکن جب آپ بغور ان کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہو گا کہ ان میں سراسرا اختلاف پایا جاتا ہے۔ صرف تاریخی تفصیلات کی بنیاد پر کسی ایسے شخص کے لیے جو مسیحیت یا اسلام میں سے کسی کی تعلیمات پر عورتہ رکھتا ہو، یہ فیصلہ کرنا سخت مشکل ہو گا کہ دونوں الہامی کتب میں سے صحیح کون سی ہے؟ تاہم اگر آپ دونوں کتابوں کے متعلقہ اقتباسات کو سائنسی علوم کے معیار پر پرکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے۔ ذیل میں دی گئی چند مثالوں سے آپ حقیقت حال سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔

■ بابل اور کائنات کی تخلیق: بابل کی پہلی کتاب پیدائش (Genesis) کے باب اول میں لکھا ہے کہ کائنات چھ دنوں میں پیدا کی گئی اور ہر دن سے مراد 24 گھنٹے کا دورانیہ ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کائنات چھ ”ایام“ میں پیدا کی گئی لیکن قرآن کے مطابق یہ ”ایام“ سالہا سال طویل ہیں۔ اس لفظ ”یوم“ کے دو معانی ہیں، اول یہ کہ دن سے مراد معمول کے 24 گھنٹے کا دن ہے اور دوم اس سے مراد ایک مرحلہ، یا ایک دور یا ایک ایسا عہد ہے جو بہت طویل زمانے پر مشتمل ہو۔

جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کائنات چھ دنوں میں پیدا کی گئی تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو چھ طویل ادوار یا زمانوں میں پیدا کیا گیا۔ سائنسدانوں کو اس بیان پر کوئی اعتراض نہیں۔ کائنات کی تخلیق میں اربوں سال صرف ہوئے اور یہ بات بابل کے اس تصور کے منافی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کائنات صرف چھ دنوں میں پیدا کی گئی جبکہ ہر دن چوبیس گھنٹے کا تھا۔

■ بابل اور سورج کی تخلیق: بابل کی کتاب ”پیدائش“ میں کہا گیا ہے کہ روشنی، دن اور رات کو خدا نے کائنات کی تخلیق کے پہلے روز پیدا کیا، چنانچہ اس میں لکھا ہے:

”خدا نے ابتداء میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندر ہیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنمیش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو ستاری کی سے جدا کیا۔ اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور ستاری کی کورات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو پہلا دن ہوا“<sup>①</sup>

جدید سائنس کے مطابق کائنات میں گردش کرتی ہوئی روشنی درحقیقت ستاروں میں ایک پیچیدہ عمل کا نتیجہ ہے جبکہ بابل کے مطابق سورج، چاند اور ستارے چوتھے روز پیدا کیے گئے۔ کتاب ”پیدائش“ میں لکھا ہے:

”سو خدا نے دو بڑے نیز بنائے۔ ایک نیز اکبر کہ دن پر حکم کرے اور ایک نیز اصغر کہ رات پر حکم کرے اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں، دن اور رات پر حکم کریں اور اجائے کو اندر ہیرے سے جدا کریں، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو چوتھا دن ہوا“<sup>②</sup>

یہ بات خلاف منطق ہے کہ روشنی کا معنی نیز اکبر (سورج) تو تین دن بعد پیدا کیا گیا لیکن سلسلہ روز و شب جو سورج کی روشنی کا نتیجہ ہے پہلے دن ہی پیدا کر دیا گیا، مزید براں ایک دن کے عناصر، یعنی صبح و شام کے وجود کا ادراک تو سورج کے سامنے زمین کی گردش محوری کے بعد

<sup>①</sup> کتاب مقدس، پیدائش: 1/3 - 5

<sup>②</sup> کتاب مقدس، پیدائش: 1/16 - 19

ہی ہو سکتا ہے مگر بابل کے مطابق صبح اور شام کی تخلیق سورج کی تخلیق سے تین دن پہلے ہی عمل میں آگئی۔

اس کے بعد قرآن مجید میں اس موضوع پر تخلیق کائنات کی کوئی غیر سائنسی ترتیب زمانی نہیں دی گئی، لہذا یہ کہنا سراسر غلط اور مضحكہ خیز ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے تخلیق کائنات کے موضوع پر بابل کے اقتباسات تو نقل کر لیے مگر بابل کی خلاف منطق اور عجیب و غریب باتیں چھوڑ دیں۔

■ سورج روشنی خارج کرتا ہے چاند نہیں: بابل کے مطابق سورج اور چاند دونوں روشنی خارج کرتے ہیں جیسا کہ کتاب پیدائش میں انھیں بالترتیب ”یتّرا اکبر“ اور ”یتّرا اصغر“ قرار دیا گیا ہے لیکن جدید سائنس کے مطابق چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں اور وہ مخفی سمشی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ اس سے قرآن مجید کے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ چاند ”منیر“ یعنی روشنی کو منعکس کرنے والا ہے اور اس سے آنے والی روشنی منعکس شدہ ہے۔ اب یہ سوچنا دُور از کار بات ہے کہ نبی ﷺ نے بابل کی ان سائنسی غلطیوں کی اصلاح کی اور پھر ایسی اصلاح شدہ عبارات قرآن میں شامل کر لیں۔

■ تخلیق نباتات اور سورج: بابل کی کتاب ”پیدائش“، باب اول فقرہ: 11 تا 13 کے مطابق نباتات، گھاس، شج، دار پودوں اور پھل دار درختوں کو تیرسے روز پیدا کیا گیا جبکہ اسی باب کے فقرہ: 14 تا 19 کے مطابق سورج کی تخلیق چوتھے روز عمل میں آئی۔ سائنسی اعتبار سے یہ کیسے ممکن ہے کہ نباتات سورج کی حرارت کے بغیر ہی وجود میں آجائیں؟ جیسا کہ بابل میں بیان کیا گیا ہے۔

اگر غیر مسلم معترضین کے بقول نبی کریم ﷺ (نحوذ بالله) فی الواقع قرآن کے مصنف تھے اور انہوں نے بابل کے مواد سے کچھ نقل کیا تو آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ انہوں نے بابل میں

شامل وہ بیانات چھوڑ دیے جو سائنسی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے اور قرآن میں ایسا کوئی بیان نہیں ملتا جو سائنسی حقائق کے خلاف ہو؟

■ تخلیق آدم اور بابل: بابل میں حضرت عیسیٰ ﷺ سے حضرت ابراہیم ﷺ اور کرہہ ارض پر پہلے انسان، یعنی آدم ﷺ تک بیان کردہ سلسلہ نسب کے مطابق حضرت آدم ﷺ آج سے تقریباً 5800 برس قبل زمین پر مبعوث کیے گئے۔ آدم ﷺ اور ابراہیم ﷺ کے درمیان تقریباً 1948 برس کا ب بعد ہے اور ابراہیم ﷺ اور حضرت عیسیٰ ﷺ کے درمیان تقریباً 1800 برس کا فاصلہ ہے جبکہ حضرت عیسیٰ ﷺ سے آج تک 2000 برس گزر چکے ہیں۔ راجح وقت یہودی کلینڈر بھی تقریباً 5800 سال پرانا ہے جو کہ تخلیق کائنات سے شروع ہوتا ہے۔

آثار قدیمہ اور بشریات (Anthropology) کے مأخذ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر قدم رکھنے والا پہلا انسان آج سے دسیوں ہزار سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ قرآن نے بھی آدم ﷺ کا ذکر زمین پر پہلے انسان کے طور پر کیا ہے لیکن بابل کے برعکس اس نے نتوان کی کوئی تاریخ بیان کی ہے اور نہ یہ بتایا ہے کہ وہ زمین پر کتنا عرصہ رہے۔ ادھر بابل نے اس کے بارے میں جو پچھہ بیان کیا ہے وہ سائنسی حقائق کے بالکل برعکس ہے۔

■ طوفانِ نوح اور بابل: بابل کی کتاب پیدائش کے ابواب: 6، 7 اور 8 سے ظاہر ہوتا ہے کہ طوفان نوح عالم گیر طوفان تھا جس نے روئے زمین پر ہر زندہ چیز کو تباہ کر دیا سوائے ان کے جونوح ﷺ کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔

”کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والا جاندار، کیا ہوا کا پرندہ یہ سب کے سب زمین پر مر مٹے، فقط ایک نوح باقی بچایا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے۔“<sup>①</sup>  
بابل کے بیان سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ واقعہ آدم ﷺ کی پیدائش کے 1656 سال بعد یا

ابراهیم علیہ السلام کی پیدائش سے 292 برس قبل اس وقت پیش آیا جب نوح علیہ السلام کی عمر 600 برس ہو چکی تھی۔ گویا یہ طوفان 21 دیس یا 22 دیس صدی قبل مسح میں آیا ہوگا۔

بابل میں طوفان کی جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ آثار قدیمہ کے مآخذ سے ملنے والی سائنسی شہادتوں سے متصاد ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مذکورہ صدیوں میں مصر کے گیارہویں حکمران خاندان اور بابل کے تیسرے خانوادے کی سلطنتیں کسی تہذیبی بحران کے بغیر مسلسل قائم تھیں اور کسی بڑے طوفان سے متاثر نہیں ہوئی تھیں جو ایکسویں بایکسویں صدی قبل مسح میں آیا ہو۔ یہ بات بابل کے اس قصہ کی تردید کرتی ہے کہ طوفان کے پانیوں میں ساری دنیا ڈوب گئی تھی۔ اس کے بعد قرآن مجید میں نوح علیہ السلام اور طوفان نوح کے بارے میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ کسی سائنسی شہادت یا آثار قدیمہ کے کوائف سے متصادم نہیں۔ اول تو قرآن اس واقعے کی کسی متعین تاریخ یا سال کی نشاندہی نہیں کرتا۔ دوم، قرآن کے مطابق بظاہر یہ سیلا ب ایک عالم گیر واقعہ نہیں تھا جس نے زمین پر موجود زندگی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہو۔

لہذا یہ فرض کرنا غیر منطقی بات ہے کہ نبی کریم ﷺ نے طوفان نوح کا قصہ بابل سے مستعار لیا اور اس کا ذکر قرآن میں کرنے سے پہلے غلطیوں کی تصحیح کر دی۔

■ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون: قرآن کریم اور بابل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون (جس کے دور میں یہود کا مصر سے خروج عمل میں آیا) کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ دونوں الہامی کتب کا اس امر پر اتفاق ہے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کھاڑی کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈوب گیا جسے موسیٰ علیہ السلام اسرائیلوں کے ہمراہ پار کر گئے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف میں ایک مزید خبر یہ دی گئی ہے:

﴿فَالْيَوْمَ نُنْجِيَكَ بِيَدِنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ أَيَّةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ

## ءَيَّتِنَا لَغَفِيلُوتَ ⑨٢

”آج ہم تیرا جسم پچا کر (سمندر سے) باہر نکال پھینکیں گے تاکہ وہ اپنے بعد والوں کے لیے نشان ( عبرت ) ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔“<sup>①</sup>

ڈاکٹر موریس بکائے نے مکمل تحقیقات کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ اگرچہ فرعون رَعْمَسِیں ثانی اس بات کے لیے معروف ہے کہ اس نے بابل کے بیان کے مطابق اسرائیلوں پر ظلم ڈھانے لیکن فی الحقیقت وہ اس وقت ہلاک ہو گیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام دین میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ رَعْمَسِیں ثانی کا بیٹا منفتح اس کا جانشین ہوا اور وہی یہود کے مصر سے خروج کے دوران میں بحیرہ قلزم کی کھاڑی میں ڈوب کر مر گیا۔ 1898ء میں مصر کی وادی ملوك میں منفتح کی مومیائی ہوئی لاش پائی گئی۔ 1975ء میں ڈاکٹر موریس بکائے نے دوسرے فضلاء کے ساتھ مل کر منفتح کی مومیا کا معایینہ کرنے کی اجازت حاصل کی۔ اس کے معایینے سے انہوں نے جو نتائج اخذ کیے، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ منفتح غالباً ڈوبنے سے یا اس شدید صدمے کی وجہ سے جو ڈوبنے سے عین پہلے اسے پیش آیا، ہلاک ہوا، لہذا اس قرآنی آیت کی صداقت کہ ”ہم اس کی لاش کو عبرت کے طور پر محفوظ رکھیں گے۔“ فرعون کی لاش ملنے سے ظاہر ہو گئی جواب مصری عجائب گھر (متحف مصری) واقع قاهرہ میں پڑی ہے۔

اس آیت قرآنی نے ڈاکٹر موریس بکائے کو، جو اس وقت تک عیسائی تھا، مطالعہ قرآن پر مجبور کر دیا۔ بعد میں اس نے ”بابل، قرآن اور سائنس“ کے عنوان سے کتاب لکھی اور اس بات کا اعتراض کیا کہ قرآن کا مصنف اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر بکائے نے آخر کار اسلام قبول کر لیا۔

یہ شواہد اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ قرآن مجید، بابل سے نقل نہیں کیا گیا بلکہ قرآن تو فرقان ہے، یعنی وہ کسوٹی جس کے ذریعے سے حق اور باطل میں امتیاز کیا جاسکتا ہے اور اس سے استفادہ کر کے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ بابل کا کون سا حصہ کلامِ الہی تصور کیا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید خود اس کی شہادت دیتا ہے۔ سورۃ السجدة میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّمْ ۝ ۱۰۷۱۱ ﴿تَنَزَّلُ إِلَيْكُمْ لَا رَبَّ لَهُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۲۰۷۱۲﴾ أَفَتَرَنَّهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُشَنِّرَ قَوْمًا مَا أَتَنَّهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ ۲۰۷۱۳﴾

”الَّمْ۔“ بے شک اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ (نہیں!) بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرامیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔<sup>①</sup>

## کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟

”قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اس کے برعکس یہ شیطان کا کارنامہ ہے؟“

معصب مغربی مصنفین اور پادری یہ بے سرو پا الزام دھراتے رہتے ہیں، اسی طرح کا الزام مکہ کے کافروں نے بھی لگایا تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو شیطان کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔

جندب بن سفیان رض سے روایت ہے:

«إِشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرِهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَالصُّحَى ① وَاللَّيلِ إِذَا سَبَحَ ② مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَلَّ ③»

”ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ بیمار ہو گئے تو آپ نے دو یا تین راتیں قیام لیل نہ کیا۔ اس دوران میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی: اے محمد! میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہارے پاس آنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے دو تین راتوں سے اسے تمہارے پاس آتے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیات نازل فرمائیں:

”دن چڑھے کی قسم! اور رات کی جب وہ چھا جائے (اے نبی!) آپ کے رب نے

آپ کونہ چھوڑ اور نہ وہ ناراض ہوا۔<sup>①</sup>

پھر سورہ واقعہ کی درج ذیل آیات نازل ہوئیں:

﴿إِنَّهُ لَقَرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾<sup>۷۷</sup> فِي كِتَابٍ مَكْتُوبٍ لَا يَمْسِهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ<sup>۷۸</sup>  
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ<sup>۷۹</sup>﴾

”بے شک یہ قرآن نہایت قابل احترام ہے ایک محفوظ کتاب میں۔ اسے بس پاک (فرشتہ) ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔“<sup>②</sup>

”کتاب مکنون“ سے مراد ایسی کتاب جو خوب محفوظ و مصون ہو۔ اور اس میں آسمان پر موجود لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کتاب قرآن مجید کو مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھوکتا اور مطہرین کے معنی ہیں ”جو ہر قسم کی ناپاکی، آلودگی یا گناہوں جیسی بُرا نیوں سے پاک ہیں۔“ یہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے اور شیطان قرآن کو ہرگز چھوٹنیں سکتا۔

اب چونکہ شیطان کے لیے قرآن پاک کو چھونا منوع ہے اور وہ اس کے قریب نہیں پہنچ سکتا، اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس نے قرآن مجید کی آیات لکھی ہوں۔ مزید برآں سورۃ الشراء میں کہا گیا ہے:

﴿وَمَا نَزَّلْتُ بِهِ الشَّيْءَ طِينٌ<sup>۲۰</sup> وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ<sup>۲۱</sup> إِنَّهُمْ عَنِ  
السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ<sup>۲۲</sup>﴾

”اور شیاطین اس (قرآن) کو لے کر نازل نہیں ہوئے اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں۔ بے شک وہ تو اس کے سُننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔“<sup>③</sup>

① صحيح البخاري، التفسير، سورة (والضحى)، باب: 1، حديث: 4950

② الواقعۃ: 80-77/56 ③ الشراء: 210/26

## شیطان کے متعلق غلط تصویر سر

بہت سے لوگ شیطان کا غلط تصویر رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان غالباً ہر کام کر سکتا ہے، سوائے چند کاموں کے جو اللہ انجام دے سکتا ہے۔ ان کے نزدیک شیطان اقتدار و اختیار میں اللہ سے قدرے نیچے ہے۔ چونکہ یہ لوگ تسلیم کرنا نہیں چاہتے کہ قرآن مجzenماوجی ہے، لہذا وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ شیطان کا کارنامہ ہے۔ لیکن غور کیجیے! اگر شیطان نے قرآن لکھا ہوتا تو وہ اسی قرآن کی سورہ نحل میں یہ ذکر نہ کرتا:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ ٤١

”پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔“<sup>①</sup>

کیا خیال ہے شیطان ایسی کتاب تصنیف کر سکتا تھا؟ کیا وہ انسانوں سے یہ کہہ سکتا تھا کہ ”میری کتاب پڑھنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگ لیا کرو کہ وہ تھیس اپنی پناہ میں رکھے“ مزید برآں قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جو اس امر کی کافی شہادت دیتی ہیں کہ شیطان قرآن کا مصنف نہیں۔ سورہ اعراف میں ہے:

﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّمَا سَمِيعُ عَلِيهِ ﴾ ٢٠٠

”اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے۔ بے شک وہ خوب سننے والا خوب جانے والا ہے۔“<sup>②</sup>

اب شیطان بھلا اپنے پیروکاروں کو کیوں بتاتا کہ جب وہ ان کے ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالے تو وہ اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں جس کا وہ کھلا دشمن ہے۔ سورہ یسوس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْيَنِي إِدَمْ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّمَا لَكُمْ عَذْوٌ مُّبِينٌ﴾ (۶۰)

”اے بنی آدم! کیا میں نے تمھیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔  
بلاشہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“<sup>①</sup>

## کفار کو شیطان نے پٹ پڑھائی سر

شیطان ذہین ہے، الہذا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اس نے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ شیطان ہی نے قرآن تصنیف کیا۔ اللہ قادر مطلق کے مقابلے میں شیطان کی کوئی اہمیت نہیں اور اللہ کہیں زیادہ علیم و حکیم ہے۔ وہ شیطان کے گھناؤ نے ارادوں کو جانتا ہے، اسی لیے اس نے قرآن کے قاری کوئی شواہد فراہم کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کلام الہی ہے اور یہ شیطان کی تصنیف ہرگز نہیں۔ انجیل مرقس میں لکھا ہے:

”اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا۔ اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا خاتمه ہو جائے گا۔“<sup>②</sup>

یہ کسی طور ممکن نہیں تھا کہ شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر ایک ایسی کتاب تصنیف کرتا جو شیطنت کی جڑ کاٹتی ہے، الہذا قرآن مجید کے بارے میں کفار مکہ اور یہود و نصاریٰ کا مذکورہ بالا الزام بے سرو پا اور سراسر خلاف حقیقت ہے!

یہ کتبہ خرید کر مسلمانوں اور مسلموں میں باشہد اور  
ثواب دار عن حاصل کیسوئے (افتتاح اللہ)

یہس: 60/36

② مرقس، باب: 3، فقرہ: 24-26

## الله معاف کرنے والا ہے یا مفترم مزاج؟

”قرآن کئی مقامات پر یہ کہتا ہے کہ اللہ نہایت رحم کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو کیا فی الحقیقت وہ معاف فرمانے والا ہے یا مفترم مزاج ہے؟“

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فی الواقع قرآن کریم کی نویں سورت، سورۃ توبہ کے سوا تمام سورتیں «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں جن کے معانی ہیں: ”اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور انہتائی رحم فرمانے والا ہے۔“

الله تعالیٰ کی مخالفی

قرآن مجید میں سورۃ نساء کی 25 ویں آیت اور سورۃ مائدہ کی آیت: 75 سمیت متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے:

﴿وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (۲۵)

”اور اللہ بہت معاف فرمانے اور انہتائی رحم کرنے والا ہے۔“<sup>①</sup>

## اللہ تعالیٰ کی سکپٹ

اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہونے کے ساتھ بہت سخت بھی ہے اور سزا کے مستحق لوگوں کو عذاب بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملدوں اور کافروں کو سخت سزادے گا۔ وہ ان سب کو عذاب میں بٹلا کرے گا جو اس کی نافرمانی کے مرتكب ہیں۔ کئی آیات میں مختلف قسم کی شدید سزاوں کا ذکر کیا گیا ہے جو جہنم میں نافرمانی کرنے والوں کو دی جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِثْيَابِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ ۵۶

”بے شک جن لوگوں نے ہماری آئیوں کا انکار کیا، ہم جلد انھیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ بہت زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔“<sup>①</sup>

## اللہ تعالیٰ کا عدل

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے یا منتقم ہے؟ اس سلسلے میں یہ کہتے قابل توجہ ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہونے کے علاوہ سزا کے مستحق بداعمال اور برے لوگوں کو سخت سزا بھی دیتا ہے کیونکہ وہ عادل بھی ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾

”بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔“<sup>②</sup>

<sup>①</sup> النساء : 40 / 4      <sup>②</sup> النساء : 4 / 56

سورہ انبیاء میں یہ حقیقت یوں بیان کی گئی ہے:

﴿وَنَصَّعُ الْمَوْزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالٌ حَبَّةً إِنَّمَا يُهَا وَكَفَى بِنَا حَسِينَ﴾ (۴۷)

”اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (کسی کا) عمل ہوگا تو ہم اسے (تو نے کے لیے وہاں) لے آئیں گے۔ اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔“<sup>①</sup>

## عمل کی ایک شہادت

کیا استاد اس طالب علم کو معاف کر دیتا ہے جو امتحان میں نقل کرتا ہے؟ اگر امتحان کے دوران میں ایک طالب علم نقل کرتا پایا جائے اور امتحان میں غرائبی کرنے والا استاد اس کو رکنگے ہاتھوں پکڑ لے تو کیا استاد یہ کہتا ہے کہ وہ بہت قبل رحم ہے اور پھر اسے نقل جاری رکھنے کی اجازت دے دیتا ہے؟ یقیناً وہ طالب علم جنہوں نے امتحانات کے لیے محنت کی ہوگی، استاد کو قطعاً رحم دل اور مہربان نہیں کہیں گے بلکہ اسے غیر عادل قرار دیں گے۔ استاد کا یہ رحم دلانہ فعل دوسرے طالب علموں کے لیے بھی نقل کی ترغیب کا باعث ہوگا۔ اگر تمام اساتذہ اسی کی طرح رحم دل اور مہربان ہو جائیں اور طالب علموں کو نقل کی اجازت دینے لگیں تو کوئی طالب علم کبھی امتحانات کے لیے مطالعہ نہیں کرے گا جبکہ نقل کر کے وہ اعلیٰ درجے میں امتحان پاس کر لے گا۔ نظری طور پر امتحانات کے نتائج بڑے شاندار ہوں گے جن میں تمام طلبہ اول درجے میں اور امتیازی نمبروں کے ساتھ کامیاب قرار پائیں گے لیکن عملی طور پر وہ زندگی میں ناکام ہو جائیں گے اور امتحانات کا سارا مقصد ہی غارت ہو جائے گا۔

## دنیا کی زندگی آخرت کے لیے آزمائش ہے

دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے ایک امتحان ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الملک میں اشارہ ہوتا ہے:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِبَلُوغِكُمْ أَيْكُدُ أَحَسَنُ عَمَلاً وَهُوَ أَعَزِيزُ الْفَغُورُ ﴽ②﴾

”وہ (اللہ) جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمھیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اور وہ زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔“<sup>①</sup>

## جزا و مزا کی حکمت رتبائی

اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو معاف فرمادے اور کسی کو سزا نہ دے تو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیونکر کریں گے؟ مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ اس صورت میں کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا لیکن اس کے نتیجے میں اس دنیا کی زندگی ضرور جہنم بن جائے گی۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ تمام انسانوں کو جنت ہی میں جانا ہے تو انسانوں کے اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد باقی رہ جاتا ہے؟ اس صورت میں دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی کے لیے ہرگز امتحان قرار نہیں دیا جاسکتا۔

## معافی صرف تائبین کے لیے

اللہ صرف توبہ کرنے والے کو معاف کرتا ہے اور اس شخص کو معاف فرماتا ہے جو اپنے کیے پر پشیمان ہو اور توبہ کرے۔ قرآن کریم کی سورۃ الرؤم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ يَعْبُدُونَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا يَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ حَيْثُماً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ۵۷ وَإِنِّي بِأَنَا إِلَيْكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرُونَ ﴾ ۵۸ وَأَتَيْمُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْثَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ ۵۹ ﴾

”کہہ دیجیے: (اللہ فرماتا ہے): اے میرے بندو جنھوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے! تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور اس کے فرماں بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اور تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچاک عذاب آجائے جبکہ تمھیں اس کی خبر تک نہ ہو۔“<sup>①</sup>

پچھتاوے اور توبہ کی چار شرائط ہیں:

- اس امر سے اتفاق کرنا کہ ایک بڑے فعل (گناہ) کا ارتکاب کیا گیا
- اس سے فوری طور پر باز آ جانا
- مستقبل میں دوبارہ کبھی اس کا ارتکاب نہ کرنا
- آخری بات یہ کہ اگر اس فعل کی وجہ سے کسی فرد کو نقصان پہنچا ہو تو اس کی تلافی کرنا

## کیا الٹراؤنگرافی قرآنی آیات کی نفی کرتی ہے؟

”قرآن کریم کہتا ہے کہ کسی ماں کے رحم میں موجود بچے کی جنس صرف اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے لیکن اب سائنس ترقی کرچکی ہے اور ہم پاسانی الٹراؤنگرافی کے ذریعے سے جنین کی جنس کا تعین کر سکتے ہیں۔ کیا یہ آیت قرآنی میڈیاکل سائنس سے متصادم نہیں؟“

اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور علیم و خبیر ہے۔ اس نے بعض چیزوں کا علم انسانوں کو بھی عطا فرمایا ہے لیکن ہر حاضر اور غائب چیز کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔

### علم غائب صرف اللہ جانتا ہے

بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف اللہ ہی رحم مادر میں جنین کی جنس کو جانتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ﴾

”بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔“<sup>①</sup>

اسی طرح کا ایک پیغام مندرجہ ذیل آیت میں دیا گیا ہے:

﴿أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنَثَى وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزَدَّادُ وَكُلُّ شَئٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ <sup>(۸)</sup>

”اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور ارحام کی کمی بیشی بھی، اور اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار (مقرر) ہے۔“ <sup>①</sup>

## الثرا سونو گرافی سے جنس کا تعین

موجودہ سائنس ترقی کرچکی ہے اور ہم الثرا سونو گرافی (Ultrasonography) کی مدد سے حاملہ خاتون کے رحم میں بچے کی جنس کا تعین بآسانی کر سکتے ہیں۔

## قرآن اور جنین کی جنس

یہ درست ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے متعدد تراجم اور تشریحات میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی یہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں موجود بچے کی جنس کیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس آیت کا عربی متن پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انگریزی کے لفظ جنس (Sex) کا کوئی متبادل عربی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ درحقیقت قرآن کریم جو کچھ کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ارحام میں کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بہت سے مفسرین کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس سے یہ مطلب لیا کہ اللہ ہی رحم مادر میں بچے کی جنس سے واقف ہے۔ یہ درست نہیں۔ یہ آیت جنین کی جنس کی طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ رحم مادر میں موجود بچے کی فطرت کسی ہوگی۔ کیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے بارکت اور باسعادة ہوگا یا باعثِ زحمت ہوگا؟ کیا وہ

## کیا اثر اسونوگر افی قرآنی آیات کی نفی کرتی ہے؟

معاشرے کے لیے باعث رحمت ہو گا یا باعث عذاب؟ کیا وہ نیک ہو گا یا بد؟ کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ ان تمام باتوں کا مکمل علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ دنیا کا کوئی سائنس دان، خواہ اس کے پاس کیسے ہی ترقی یافتہ آلات کیوں نہ ہوں، رحم مادر میں موجود بچے کے بارے میں کبھی ان باتوں کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔<sup>①</sup>

① ابتدائی مرافق میں جب نطفہ اور علقہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو کوئی سائنس دان بھی اس کا تعین نہیں کر سکتا کہ اس کی جنس کیا ہے۔ پھر آلات کے ذریعے سے معلوم کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپریشن کر کے کہ کہ مجھے اس کی جس معلوم ہو گئی ہے، حالانکہ یہ اسباب کے بغیر معلوم کرنے کی نفی ہے۔ اور ایسے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں کہ ڈاکٹر کی روپوٹ کے خلاف نتیجہ نکلا ہے، یعنی ڈاکٹری روپوٹ حقیقتی اور یقینی نہیں۔ (عثمان نیب)

## کیا قرآن میں تضاد ہے؟

”قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ ایک دوسری آیت قرآنی کہتی ہے کہ ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے، تو کیا قرآن اپنی ہی بات کی نفع نہیں کر رہا؟“

قرآن کریم کی سورۃ السجدة اور سورۃ الحج میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی نظر میں جودن ہے، وہ ہماری دانست کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْوِذُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ ⑤﴾

”وہی (اللہ) آسمان سے زمین تک (سارے) معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک دن میں، جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال ہے، وہ معاملات اور اس کے پاس جاتے ہیں۔“<sup>①</sup>

ایک اور آیت میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے نزدیک ایک دن تمہارے پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً ④﴾

”فرشته اور روح القدس (جبریل) اور اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔“<sup>①</sup>

ان آیات کا عمومی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وقت کا موازنہ زمینی وقت سے نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی مثالیں زمین کے ایک ہزار سال اور پچاس ہزار سال سے دی گئی ہیں۔ بالفاظ دیگر اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے وہ زمین کے ہزاروں سال یا اس سے بھی بہت زیادہ عرصے کے برابر ہے۔

### ”یوم“ کے معنی

ان تینوں آیات میں عربی لفظ ”یوم“ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ”ایک دن“ کے علاوہ ”طویل عرصہ“ یا ”ایک دور“ بھی ہے۔ اگر آپ یوم کا ترجمہ عرصہ (Period) کریں تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ سورہ حج میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفَ سَنَةٌ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾<sup>②</sup>

”یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار برس کے برابر ہے۔“<sup>②</sup>

جب کافروں نے یہ کہا کہ سزا میں دیر کیوں ہے اور اس کا مرحلہ جلد کیوں نہیں آتا تو قرآن میں ارشاد ہوا کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام نہیں رہے گا، تمہاری نظر میں جو عرصہ ایک ہزار سال کو محیط ہے، وہ اللہ کے نزدیک ایک دن ہے۔

## 50 ہزار اور ایک ہزار سال کی حقیقت

سورہ سجدہ کی مذکورہ بالا آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تک تمام امور کو پہنچنے میں ہمارے حساب کے مطابق ایک ہزار سال کا عرصہ لگتا ہے جبکہ سورہ المارج کی آیت: 4 کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتوں اور روح القدس یا ارواح کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں پچاس ہزار برس کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔<sup>①</sup>

ضروری نہیں کہ دو مختلف افعال کے انجام پانے کے لیے یکساں مدت درکار ہو۔ مثال کے طور پر مجھے ایک مقام تک پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے جبکہ دوسرے مقام تک سفر کے لیے 50 گھنٹے درکار ہیں تو اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں دو متضاد باتیں کر رہا ہوں۔ یوں قرآن کی آیات نہ صرف ایک دوسری کے مقابلہ نہیں بلکہ وہ مسلمہ جدید سائنسی حقائق سے بھی ہم آہنگ ہیں۔

① قرآن میں بیان کیے گئے وقت کا پیانہ عام انسانوں کے لحاظ سے ہے۔ فرشتوں خاص طور پر حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے فرشتوں کے لیے یہ وقت ایک دن یا اس سے بھی کم ہے جبکہ انسانوں کو اتنا فاصلہ طے کرنے میں ایک ہزار سال لگ سکتے ہیں۔

باتی رہا پچاس ہزار سال کا دن تو فرشتے خصوصاً جبریل علیہ السلام میں سے سدرۃ المنینی تک کافاصلہ ایک دن یا سے بھی کم مدت میں طے کر لیتے ہیں جبکہ عام انسانی پیانے سے یہ فاصلہ پچاس ہزار سال میں طے کیا جا سکتا ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ زمین سے عرش تک جو امور پہنچائے جاتے ہیں وہ ایسے وقت میں پہنچتے ہیں کہ عام لوگوں کو اس میں پچاس ہزار سال لگ جائیں۔ مفسرین کے ایک قول کے مطابق قیامت کا دن کفار اور نافرانوں پر ایک ہزار سال یا پچاس ہزار سال جتنا بھاری ہو گا، البتہ مومنوں کے لیے وہ ایک دن یا اس سے کم تکلیف کا باعث ہو گا، جیسے حدیث میں ہے کہ یہ وقت ظہر سے عصر تک کا ہو گا یا صرف اس قدر ہو گا جس قدر کوئی نماز میں وقت لگاتا ہے (مسند احمد: 3/75 و ابن حبان: 7334) تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر فتح البیان، تفسیر الحازن اور تفسیر روح المعانی وغیرہ۔

## تخلیق انسان کس سے؟

”ایک مقام پر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو نطفے (مادہ منویہ) سے پیدا کیا گیا جبکہ ایک دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ آدمی کوئی سے پیدا کیا گیا۔ کیا یہ دونوں آیات باہم متصادم نہیں؟ آپ سائنسی طور پر یہ کیسے ثابت کریں گے کہ آدمی کوئی سے پیدا کیا گیا ہے؟“

قرآن کریم میں بنی نوع انسان کی حقیر ابتداء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسے مادہ منویہ کے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا۔ یہ بات متعدد آیات میں کہی گئی جن میں سورہ قیامہ کی حسب ذیل آیت بھی شامل ہے:

﴿أَلَّا يَكُنْ نُطْفَةٌ مِّنْ مَّنْيٍ يُعْنَى﴾ (۳۷)

”کیا وہ (ایک حقیر) پانی کا نطفہ نہ تھا جو (رحم مادر میں) پکایا جاتا ہے۔“<sup>①</sup>

قرآن کریم متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر بھی کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کوئی سے پیدا کیا گیا۔ حسب ذیل آیت میں بنی نوع انسان کی تخلیق اور ابتداء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ﴾

”لوگو! اگر تمھیں زندگی بعدِ موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمھیں معلوم ہونا چاہیے کہ) بے شک ہم نے تمھیں مٹی سے پیدا کیا۔“<sup>①</sup>

موجودہ دور میں ہمیں معلوم ہے کہ جسم انسانی کے عناصر، جن سے مل کر انسانی جسم وجود میں آیا ہے، سب کے سب کم یا زیادہ مقدار میں مٹی میں شامل ہیں۔ سو یہ اس آیتِ قرآن کی سائنسی توجیہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔

قرآن کی بعض آیات میں اگر یہ فرمایا گیا ہے کہ آدمی کو نطفے سے پیدا کیا گیا جبکہ بعض اور آیات میں کہا گیا ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ تضاد سے مراد تو ایسے بیانات ہیں جو باہم مخالف یا متصادم ہوں اور یہک وقت صحیح نہ ہوں۔

## پانی سے انسان کی تخلیق

بعض مقامات پر قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ مثال کے طور پر سورۃ الفرقان میں کہا گیا:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾

”اور وہی (اللہ) ہے جس نے آدمی کو پانی سے پیدا کیا۔“<sup>②</sup>

## تخلیق انسانی، پانی یا مٹی سے؟

سائنس نے ان تینوں بیانات کی تصدیق کر دی ہے۔ انسان نطفے، مٹی اور پانی تینوں سے پیدا کیا گیا ہے۔

فرض کیجیے میں یہ کہتا ہوں کہ چائے کا کپ تیار کرنے کے لیے پانی درکار ہے لیکن اس کے لیے چائے کی پتی اور دودھ یا ملک پاؤڈر بھی درکار ہوتا ہے۔ یہ دونوں بیانات متفاہ نہیں کیونکہ پانی اور چائے کی پتی دونوں ہی چائے کی پیالی تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں، مزید برآں اگر میں میٹھی چائے بنانا چاہوں تو اس میں چینی بھی ڈال سکتا ہوں، لہذا قرآن جب یہ کہتا ہے کہ انسان کو نطفے، مٹی اور پانی سے تخلیق کیا گیا تو اس میں کوئی تضاد نہیں بلکہ تینوں میں امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ چیزوں میں امتیاز (Contradistinction) کا مطلب ایک ہی موضوع کے ایسے دو تصورات کے بارے میں بات کرنا ہے جو باہم متفاہ نہ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور عادتاً جھوٹا ہے تو یہ ایک متفاہ بات ہوگی لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ آدمی دیانتدار، مہربان اور محبت کرنے والا ہے تو یہ اس کی مختلف صفات میں امتیاز ظاہر کرنے والا ایک بیان ہوگا۔

## افلاک وارض کی تخلیق چھ یا آٹھ روز میں؟

”قرآن کئی مقامات پر یہ بیان کرتا ہے کہ زمین و آسمان چھ دنوں میں پیدا کیے گئے۔ لیکن سورہ فصلت (خَمَ السَّجْدَةُ) میں کہا گیا کہ زمین و آسمان 8 دنوں میں بنائے گئے۔ کیا یہ ایک تضاد ہے؟ اسی آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین 6 دنوں میں پیدا کی گئی اور پھر اس کے بعد آسمان 2 دنوں میں پیدا کیے گئے۔ یہ بات گپ بینگ (Big Bang) یا عظیم دھماکے کے نظریے کے منافی ہے جس کے مطابق زمین و آسمان بیک وقت پیدا ہوئے۔“

مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ قرآن کے مطابق آسمان اور زمین 6 دنوں، یعنی چھ ادوار میں پیدا کیے گئے۔ اس کا ذکر حسب ذیل سورتوں میں آیا ہے:

- سورہ اعراف کی آیت: 54
- سورہ یونس کی آیت: 3
- سورہ ہود کی آیت: 7
- سورہ فرقان کی آیت: 59
- سورہ سجدہ کی آیت: 4
- سورہ ق کی آیت: 38

■ سورہ حمدید کی آیت: ۴

وہ آیاتِ قرآنی جو آپ کے خیال میں یہ کہتی ہیں کہ آسمان و زمین آٹھ دنوں میں پیدا کیے گئے، وہ ۴۱ ویں سورہ فصلت (حُمَّ السَّجْدَة) کی آیات: ۹ تا ۱۲ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ أَيُّنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِاللَّهِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ⑨ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسَيْ مِنْ فَوْقَهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِلْسَّابِلَيْنَ ⑩ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَتَنِّي طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَنِّي نَبَاتٌ طَائِعٌينَ ⑪ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ أَلْسَانَ السَّمَاءَ الَّذِي نَبَاتَ بِعَصْبَيْحٍ وَحَفَظَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ⑫﴾

”(اے نبی!) ان سے کہیے: کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو اور دوسروں کو اس کے شریک ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا؟ وہ تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس نے اس (زمین) میں اس کے اوپر پہاڑ جمادیے، اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس میں غذاوں کا (ٹھیک) اندازہ رکھا۔ یہ (کام) چار دنوں میں ہوا، پوچھنے والوں کے لیے ٹھیک (جواب) ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے اس (آسمان) سے اور زمین سے کہا: وجود میں آجائے، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دنوں نے کہا: ہم آگئے، فرمانبردار ہو کر۔ تب اس نے دو دنوں کے اندر انھیں سات آسمان بنادیا اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا۔ اور آسمان دنیا کو ہم نے چاغوں (ستاروں) سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب ایک بہت زبردست، خوب جانے والے کی تدبیر ہے۔“<sup>①</sup>

قرآن کریم کی ان آیات سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ آسمان اور زمین 8 دنوں میں پیدا کیے گئے۔

اللہ تعالیٰ اس آیت کے شروع ہی میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو عبارت کے اس نکٹھے میں موجود معلومات کو اس کی صداقت کے بارے میں شبہات پیدا کرنے کے لیے غلط طور پر استعمال کرتے ہیں، درحقیقت وہ کفر پھیلانے میں دچپسی رکھتے اور اس کی توحید کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ بعض کفار ایسے بھی ہوں گے جو اس ظاہری تضاد کو غلط طور پر استعمال کریں گے۔

### ﴿ثُمَّ﴾ سے مراد ”مزید برآں“ سر

اگر آپ توجہ اور احتیاط کے ساتھ ان آیات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ ان میں زمین اور آسمان کی دو مختلف تخلیقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہاڑوں کو چھوڑ کر زمین دو دنوں میں پیدا کی گئی۔ اور 4 دنوں میں پہاڑوں کو زمین پر مضبوطی سے کھڑا کیا گیا اور زمین میں برکتیں رکھ دی گئیں اور نپے تلے اندازے کے مطابق اس میں رزق مہیا کر دیا گیا، لہذا آیات: 9 اور 10 کے مطابق پہاڑوں سمیت زمین 6 دنوں میں پیدا کی گئی۔ آیات: 11 اور 12 کہتی ہیں کہ مزید برآں دو دنوں میں آسمان پیدا کیے گئے۔ گیارہویں آیت کے آغاز میں عربی کا لفظ ﴿ثُمَّ﴾ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب پھر لکھا گیا ہے، اور اس سے بعد ازاں مراد ازاں مراد لیا گیا ہے۔ اگر ﴿ثُمَّ﴾ کا ترجمہ غلط طور پر ”پھر“ کیا جائے تو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے کل ایام آٹھ قرار پائیں گے اور یہ بات دوسری قرآنی آیات سے متصادم ہو گی جو یہ بتاتی ہیں کہ آسمان و زمین چھ دنوں میں پیدا کیے گئے، علاوہ ازیں اس صورت میں یہ آیت قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء کی

30 ویں آیت سے بھی متصادم ہوگی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمین و آسمان بیک وقت پیدا کیے گئے تھے۔

الہذا اس آیت میں لفظ **(ثُمَّ)** کا صحیح ترجمہ "مزید برآں" یا "اس کے ساتھ ساتھ" ہوگا۔ علامہ عبداللہ یوسف علی نے صحیح طور پر لفظ **(ثُمَّ)** کا ترجمہ "مزید برآں" (Moreover) کیا ہے جس سے واضح طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب پہاڑوں وغیرہ سمیت چھ دنوں میں زمین پیدا کی گئی تو بیک وقت اس کے ساتھ ہی دو دنوں میں آسمان بھی پیدا کیے گئے تھے، چنانچہ کل ایام تخلیق آٹھ نہیں چھ ہیں۔

فرض کیجیے ایک معمار یہ کہتا ہے کہ وہ 10 ہزار منزلہ عمارت اور اس کے گرد چار دیواری 6 ماہ میں تعمیر کر دے گا اور اس منصوبے کی تکمیل کے بعد وہ اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عمارت کا تہہ خانہ 2 ماہ میں تعمیر کیا گیا اور دس منزلوں کی تعمیر نے 4 مہینے لیے اور جب بلڈنگ اور تہہ خانہ بیک وقت تعمیر کیے جا رہے تھے تو اس نے ان کے ساتھ ساتھ عمارت کی چار دیواری کی بھی تعمیر کر دی جس میں دو ماہ لگے۔ اس میں پہلا اور دوسرا بیان باہم متصادم نہیں لیکن دوسرے بیان سے تعمیر کا تفصیلی حال معلوم ہو جاتا ہے۔

### آسمان اور زمین کی بیک وقت تخلیق

قرآن کریم میں کئی مقامات پر تخلیق کائنات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض جگہ السموات والأرض (آسمان اور زمین) کہا گیا ہے جبکہ بعض دوسرے مقامات پر الأرض والسماوات (زمین اور آسمان) کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سلسلے میں سورۃ الانبیاء میں عظیم دھماکے (Big Bang) کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین بیک وقت پیدا کیے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَنَّقْنَاهُمْ  
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢٠)

”کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلتے تھے، پھر ہم نے انھیں جدا کر دیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی۔ کیا پھر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟“<sup>①</sup>

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ كُلَّمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّيْنَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ﴾ (٢١)

”وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔“<sup>②</sup>

یہاں بھی اگر آپ ﴿ثُمَّ﴾ کا ترجمہ غلط طور پر ”پھر“ کریں گے تو یہ آیت قرآن کی بعض دوسری آیات اور بگ بینگ کے نظریے سے متصادم ہوگی، لہذا لفظ ﴿ثُمَّ﴾ کا صحیح ترجمہ ”مزید برآں“ ”بیک وقت“ یا ”اس کے ساتھ ساتھ“ ہے۔

## کیا مشرق و مغرب دودو ہیں؟

”قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ کہا گیا کہ اللہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا آقا و مالک ہے۔ آپ کے نزدیک اس آیتِ قرآنی کی سائنسی تعبیر کیا ہے؟“

قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہے:

﴿رَبُّ الْمَشْرِقِينَ وَرَبُّ الْمَغْرِبِينَ ﴾ ۱۷

”(وہی) مشرقین اور مغربین کا رب ہے۔“<sup>①</sup>

عربی متن میں مشرق و مغرب کے الفاظِ تثنیہ کی شکل میں استعمال کیے گئے ہیں۔ ان سے مراد یہ ہے کہ اللہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔

## مشرق و مغرب کی انتہا سر

جنگرائی کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سورجِ مشرق سے طلوع ہوتا ہے لیکن اس کے طلوع ہونے کا مقام سارا سال تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ سال میں دو دن، 21 مارچ اور 23 ستمبر، جو

اعتدال رئيسي وخرافي (Equinox) کے نام سے معروف ہیں، ایسے ہیں جب سورج عین مشرق سے طلوع ہوتا ہے، یعنی خط استوا پر سفر کرتا ہے۔ باقی تمام دنوں میں عین مشرق سے قدرے شمال یا قدرے جنوب کی طرف ہٹ کر طلوع ہوتا ہے۔ موسم گرما کے دوران میں 22 جون کو سورج مشرق کی ایک انتہا سے نکلتا ہے (خط سرطان پر سفر کرتا ہے) تو موسم سرما میں بھی ایک خاص دن، یعنی 22 دسمبر کو سورج مشرق کی دوسری انتہا سے نکلتا ہے (خط جدی پر سفر کرتا ہے)۔ اس طرح سورج موسم گرمائیں (22 جون) اور موسم سرما میں (22 دسمبر) کو مغرب میں و مختلف انتہاؤں پر غروب ہوتا ہے۔<sup>①</sup> فطرت کا یہ مظاہرہ کسی بھی شہر میں رہنے والے لوگ بآسانی دیکھ سکتے ہیں یا کسی بلند و بالا عمارت سے سورج کے سورج گرمیوں میں 22 جون کو نظارہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ نظارہ کرنے والے لوگ دیکھیں گے کہ سورج گرمیوں میں 22 جون کو مشرق کی ایک انتہا سے نکلتا ہے تو سردیوں میں 22 دسمبر کو ایک دوسری انتہا سے۔ مختصر یہ کہ سارا سال سورج مشرق کے مختلف مقامات سے نکلتا ہے اور مغرب کے مختلف مقامات پر غروب ہوتا رہتا ہے، لہذا جب قرآن اللہ کا ذکر دو مشرقوں اور دو مغربوں کے رب کے طور پر کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب دونوں کی دونوں انتہاؤں کا رب اور مالک ہے۔

<sup>①</sup> زمین پر خط استوا کا عرض بلد صفر ہے جو زمین کو دو برابر نصف کروں میں تقسیم کرتا ہے۔ خط استوا کے شمال میں خط سرطان کا عرض بلد 23.5 درجے شمالی ہے اور خط استوا کے جنوب میں خط جدی کا عرض بلد 23.5 درجے جنوبی ہے۔ سورج بظاہر انہی دو عرض بلاد کے درمیان سفر کرتا نظر آتا ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ زمین کی محوری گردش (الٹوکی طرح مغرب سے مشرق کو گھونٹنے) کے دوران میں سال کے مختلف اوقات میں اس کے مختلف مقامات سورج کے رہا راست سامنے آتے ہیں۔ سال میں دوبار 21 مارچ اور 23 ستمبر کو سورج خط استوا پر عموداً چلتا ہے (بظاہر خط استوا پر سفر کرتا نظر آتا ہے) جبکہ 22 جون کو سورج کی شعاعیں خط سرطان پر عموداً چلتی ہیں اور 22 دسمبر کو سورج خط جدی پر عموداً چلتا ہے۔ (محسن فارانی)

تمام نقاط و مقامات کا مالک اللہ ہے

اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کے تمام نقاط و مقامات کا مالک ہے۔ عربی زبان میں جمع کے صیغہ کی دو اقسام ہیں۔ ایک جمع تثنیہ ہے، یعنی دو کی جمع اور دوسری قسم وہ ہے جس میں دو سے زیادہ کی جمع مراد ہوتی ہے۔ سورہ رحمن کی ۱۷ ویں آیت میں مشرقین اور مغربین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کا صیغہ جمع تثنیہ ہے اور ان سے مراد دو مشرق اور دو مغرب ہیں۔ قرآن کریم کی حسب ذیل آیت دیکھیے:

﴿فَلَا أُفِيمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ﴾ ①

”پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی۔“<sup>①</sup>

اس میں مشرق و مغرب کی جمع کے لیے مشارق اور مغارب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ جمع کے صیغہ ہیں اور دو سے زیادہ کی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مشرق اور مغرب کے تمام مقامات کا مالک ہونے کے علاوہ مشرق و مغرب کے دو انتہائی مقامات کے رب اور مالک کے طور پر بھی کیا گیا ہے۔

برائے ہر ماہی اس کتاب کو فرید کر لینے گھر کو روشنیں ۔

## کیا اسلام تشدد اور خونریزی کی دعوت دیتا ہے؟

”کیا اسلام تشدد، خونریزی اور بھیت کو فروغ دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں کفار کو پائیں انھیں قتل کر دیں؟“

قرآن کریم سے بعض مخصوص آیات کا غلط طور پر اس لیے حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس غلط تصور کو قائم رکھا جاسکے کہ اسلام تشدد کی حمایت کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں پر زور دیتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر رہنے والوں کو قتل کر دیں۔

آخر حصہ کا عذر حوالہ دیا جاتا ہے

سورہ توبہ کی مندرجہ ذیل آیت کا اسلام کے ناقدین اکثر حوالہ دیتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جاسکے کہ اسلام تشدد، خون ریزی اور حشمت کو فروغ دیتا ہے:

﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوكُمْ﴾

”تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ، انھیں قتل کر دو۔“<sup>①</sup>

## آئینت کا سیاق و سبق

درحققت نادینِ اسلام اس آیت کا حوالہ سیاق و سبق سے ہٹ کر دیتے ہیں۔ آیت کے سیاق و سبق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سورت کا مطالعہ آیت نمبر ۱ سے شروع کیا جائے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو معاهداتِ امن ہوئے تھے، ان سے براءت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس براءت (معاهدات کی منسوخی) سے عرب میں شرک اور مشرکین کا وجود عملًا خلاف قانون ہو گیا کیونکہ ملک کا غالباً حصہ اسلام کے زیرِ حکم آچکا تھا۔ ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کارباقی نہ رہا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں یا پھر اپنے آپ کو اسلامی حکومت کے لظم و ضبط میں دے دیں۔ مشرکین کو اپنا رویہ بدلنے کے لیے چار ماہ کا وقت دیا گیا۔ ارشادِ الہی ہوا:

﴿فَإِذَا أَنْسَلْتَهُنَّ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَأَقْتُلُوْا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّوكُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ إِنَّمَا تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الْزَكُوْةَ فَخَلُوْا سِيلَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ⑤

”پس جب حرمت (دی گئی مہلت) والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑ لو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی تاک میں بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور حرم کرنے والا ہے۔“ ①

ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا امریکہ ویٹ نام سے برس پیکار تھا۔ فرض کیجیے کہ

صدر امریکہ یا امریکی جرنیل نے جنگ کے دوران میں امریکی سپاہیوں سے کہا: جہاں کہیں ویت نامیوں کو پاؤ انھیں ہلاک کر دو۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے اگر آج میں سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ کہوں کہ امریکی صدر یا جرنیل نے کہا تھا کہ جہاں کہیں ویت نامیوں کو پاؤ انھیں قتل کر دو۔ تو یوں معلوم ہو گا کہ میں کسی قصائی کا ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں اس کی یہی بات صحیح سیاق و سباق میں بیان کروں تو یہ بالکل منطقی معلوم ہو گی کیونکہ وہ دراصل جنگ کے حالات میں اپنی سپاہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک ہنگامی حکم دے رہا تھا کہ دشمن کو جہاں کہیں پاؤ ختم کر دو، حالت جنگ ختم ہونے کے بعد یہ حکم ساقط ہو گیا۔

### حالت جنگ کی حکوم

اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا ہے کہ ”تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ انھیں قتل کر دو۔“ یہ حکم جنگ کے حالات میں نازل ہوا اور اس کا مقصد مسلم سپاہ کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ قرآن کریم درحقیقت مسلمان سپاہیوں کو تلقین کر رہا ہے کہ وہ خوفزدہ نہ ہوں اور جہاں کہیں دشمنوں سے سامنا ہو انھیں قتل کر دیں۔

### اردن شہر کی تحریک کا کام

ارون شوری، بھارت میں اسلام کے شدید ناقدوں میں سے ہے۔ اس نے بھی اپنی کتاب ”فتاویٰ کی دنیا“ کے صفحہ 572 پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا حوالہ دیا ہے۔ آیت نمبر 5 کا حوالہ دینے کے بعد وہ دفعتاً ساتویں آیت پر آ جاتا ہے۔ یہاں ہر معقول آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر آیت نمبر 6 سے گریز کیا ہے۔

کیا اسلام تشدداً و خوزریزی کی دعوت دیتا ہے؟

① التوبۃ : 6/9

## قرآن سے جواب

سورہ توبہ کی آیت نمبر ۶ اس الزام کا شانی جواب دیتی ہے کہ اسلام (نعوذ باللہ) تشرد، بہیمیت اور خوزریزی کو فروغ دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَنْبِلْغُهُ مَا مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِآنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ⑥

”اے نبی! اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگ لے تو اسے پناہ دے دیجیے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجیے۔ یہ (رعایت) اس لیے ہے کہ بے شک وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔“ ①

قرآن کریم نہ صرف یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مشرک حالات جنگ میں پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دی جائے بلکہ حکم دیتا ہے کہ اسے محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ موجودہ میں الا قائم منظر نامے میں ایک رحم دل اور امن پسند جریل جنگ کے دوران میں دشمن کے سپاہیوں کو امن طلب کرنے پر آزادانہ جانے دے لیکن کون ایسا فوجی جریل ہوگا جو اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ سکے کہ اگر دوران جنگ دشمن کے سپاہی امن کے طلب گار ہوں تو انھیں نہ صرف یہ کہ رہا کر دو بلکہ محفوظ مقام پر بھی پہنچا دو؟

## کیا قرآنی احکام و راثت میں ریاضی کی غلطی ہے؟

”ہندو دانشور ارون شوری نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم میں ریاضی کی ایک غلطی پائی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سورہ نساء کی آیات کی آیات نمبر 11 اور 12 میں وارثوں کو دی جانے والی و راثت کے حصوں کو جمع کیا جائے تو کل عدد ایک سے زیادہ بن جاتا ہے، لہذا (نحوذ باللہ) قرآن کا مصنف ریاضی نہیں جانتا۔“

وراثت کے مسائل قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیے گئے ہیں:

- سورۃ البقرہ آیت: 180
- سورۃ البقرہ آیت: 240
- سورۃ النساء آیات: 7 تا 9
- سورۃ النساء آیات: 19 اور 33
- سورۃ المائدہ آیات: 105 اور 108

لیکن وراثت کے حصوں کے بارے میں سورۃ النساء کی آیات کی آیات نمبر 11، 12 اور 176 میں واضح احکام ہیں۔

آیے سورۃ النساء کی آیات نمبر 11 اور 12 کا جائزہ میں جس کا حوالہ ارون شوری نے دیا ہے:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ أَوْنَادِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُشَيْنِ فَإِنْ كُنْ نِسَاءٌ فَوْقَ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُبَوِّيهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَدُّسٌ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدًا وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الْثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ أَبَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْمَنَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بْرَ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدًا فَلَكُمْ أَرْبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ أَرْبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدًا فَلَهُنَّ الْثُلُثُنَّ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَحُّ أَوْ أَخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَدُّسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرَ مُضْكَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (۱۲)

”تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ و عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر (دویا) دو سے زائد عورتیں ہوں تو انھیں ترکے کا دو تھائی دیا جائے۔ اور اگر ایک ہی بیٹی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے۔ اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیرا حصہ دیا جائے اور اگر میت کے (ایک سے زیادہ) بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔

(یہ تفہیم) اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تم نہیں جانتے کہ تمھارے باپ دادا اور تمھاری اولاد میں سے کون بجا طبق تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصہ اللہ نے مقرر کیے ہیں اور بے شک اللہ خوب جانے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمھاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو، اگر وہ بے اولاد ہوں تو اس کا آدھا حصہ تمھیں ملے گا، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ان کے ترکے کا چوتھا حصہ تمھارا ہے۔

(یہ تفہیم) ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تمھاری اولاد نہ ہو تو تمھارے ترکے میں تمھاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، پھر اگر تمھاری اولاد ہو تو تمھارے ترکے میں ان کا آٹھواں حصہ ہے۔ (یہ تفہیم) تمھاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تفہیم کیا جا رہا ہو، اس کا بیٹا ہونہ باپ، یا ایسی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیاد ہو تو وہ سب ایک تہائی حصے میں (براہ) شریک ہوں گے۔ (یہ تفہیم) اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد (ہوگی) جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے۔ اور اللہ خوب جانے والا، بڑے حوصلے والا ہے۔<sup>①</sup>

### اسلام کا قانون و راست

اسلام نے قانون و راست کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قرآن میں ایک جامع اور بنیادی خاکہ دیا گیا ہے جبکہ اس کی تفصیل اور جزئیات نبی کریم ﷺ کی احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ قانون اتنا جامع اور مفصل ہے کہ اگر کوئی شخص حصہ داروں کی مختلف

ترتیب و ترکیب کے ساتھ اس پر عبور حاصل کرنا چاہے تو اسے اس کے لیے ساری عمر وقف کرنی پڑے گی۔ ادھر اون شوری ہے جو قرآن کی دو آیات کے سرسری اور سطحی مطالعے سے اور شرعی معیارات سے واقفیت حاصل کیے بغیر ہی اس قانون کو جانے کی توقع رکھتا ہے۔ اس کی حالت اس شخص جیسی ہے جو الجبرے کی ایک مساوات حل کرنے کا خواہاں ہے، حالانکہ وہ ریاضی کے بنیادی قواعد (Bodmas) بھی نہیں جانتا جن کے مطابق قطع نظر اس بات سے کہ ریاضی کی کوئی سی علامت پہلے آئی ہے، پہلے آپ کو Bodmas حل کرنا ہوگا، یعنی پہلے بریکٹیوں حل کرنی ہوں گی، دوسرے مرحلے پر تقسیم کا عمل کرنا ہوگا، تیسرا پر ضرب کا عمل، چوتھے پر جمع کا اور پانچویں مرحلے پر تفریق کا عمل انجام دینا ہوگا۔ اگر اون شوری ریاضی سے نا بلد ہے اور وہ مساوات کے حل کا عمل ضرب سے شروع کرتا ہے، پھر تفریق کا عمل کرتا ہے اس کے بعد بریکٹیوں کو دور کرنے کا عمل انجام دیتا ہے، پھر تقسیم کی طرف آتا ہے اور آخر میں جمع کا عمل بروئے کار لاتا ہے تو یقیناً اس کا جواب غلط ہی ہوگا۔

اسی طرح جب قرآن مجید سورہ نساء کی آیات نمبر 11 اور 12 میں قانون و راثت بیان کرتا ہے تو اگرچہ سب سے پہلے اولاد کے حصے کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد والدین اور میاں یا بیوی کے حصے بیان ہوئے ہیں لیکن اسلامی قانون و راثت کے مطابق سب سے پہلے قرض اور واجبات ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد والدین اور میاں یا بیوی کا حصہ ادا کیا جاتا ہے جو اس امر پر مخصر ہے کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے بچے بھی چھوڑے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد پچھے والی جائداد بیٹوں اور بیٹیوں میں مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے، الہذا کل حص کے مجموع کا ایک سے بڑھ جانے کا سوال کہا پیدا ہوا؟<sup>①</sup>

① قانون و راثت کے عام مسائل تو سیدھے ہیں ان میں جتنے حصص ہوں وہ مخرج کے حساب سے ورثاء پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ورثاء کے حصص مخرج سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں مناسب

سویہ اللہ نہیں جو ریاضی نہیں جانتا بلکہ خود اروں شوری ریاضی کے علم سے بے بہرہ اور ناواقف ہے۔

عدد کا اضافہ کر کے مخرج کو حصہ کے برابر کر لیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اسے ”عوول“ کہتے ہیں۔ اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ ورثاء کا حصہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ عوول کا سب سے پہلے فتویٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیا۔ اکثر صحابہؓ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے قبول کیا سوائے چند ایک کے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے: مرنے والی خاتون اپنے پیچھے، خاوند اور دوستگی بینیں وارث کے طور پر چھوڑ جاتی ہے۔ خاوند کا حصہ نصف  $\frac{1}{2}$  ہے اور دوستگی بہنوں کا حصہ دو تھائی ( $\frac{2}{3}$ ) ہے۔ یہاں اصل مسئلہ (ذو اضعاف اقل) 6 ہے۔ خاوند کو نصف (تین حصے) ملے گا اور بہنوں کے لیے 2 تھائی (چار حصے) ہے۔ اب اس مسئلے میں ”عوول“ آگئی، یعنی مخرج تنگ ہو گیا جس کی بنا پر حصہ بڑھا دیے، پہلے 6 تھے اب 7 ہو گئے۔ اس طرح چند صورتیں اور بھی ہیں جن میں عوول آتا ہے۔ اور یہ عوول کا آنا ریاضی کے قانون سے ناواقفیت کی بنا پر نہیں بلکہ یہ ایک تقدیری مسئلہ ہے کہ مورث کی موت کے وقت کون سا وارث زندہ ہے۔ ان میں سے جو زیادہ حق دار ہے اسی کو وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ بعض دفعہ مخرج کے مطابق نکالے ہوئے حصہ بیچ جاتے ہیں وہ اصحاب الفروض میں سوائے زوجین کے، تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے تفہیم المواریث از استاذ فاروق اصغر صارم)

## کفار کے دلوں پر مہر لگنے کے بعد وہ قصور وار کیوں؟

”اگر اللہ نے کافروں، یعنی غیر مسلموں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو پھر انھیں اسلام قبول نہ کرنے کا قصور وار کیسے ٹھہرایا جاسکتا ہے؟“

اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 6 اور 7 میں فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنَذَرْنَاهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْنَاهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ  
ۖ ⑥ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غَشْوَةٌۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ ۝ ⑦﴾

”بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ انھیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہر حال وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔“<sup>①</sup>

یہ آیات عام کفار کی طرف اشارہ نہیں کرتیں جو ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ان کے لیے ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو حق کو رد کرنے پر تله

ہوئے ہیں۔ بنی کریم ﷺ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ”تم انھیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔“ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں نہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ معاملہ اس کے بر عکس ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کفار بہر صورت حق کو مسترد کرنے پر تلے بیٹھے ہیں اور آپ انھیں تنبیہ کریں یا نہ کریں، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لہذا اس کا ذمہ دار اللہ نہیں بلکہ کفار خود ہیں۔<sup>①</sup>

### اکیک مثال سےوضاحت

فرض کیجیے ایک تجربہ کا راستا د آخری (فائل) امتحانات سے قبل یہ پیشگوئی کرتا ہے کہ فلاں طالب علم امتحان میں فیل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بہت شریر ہے، سبق پر توجہ نہیں دیتا اور اپنا ہوم ورک بھی کر کے نہیں لاتا۔ اب اگر وہ امتحان میں ناکام رہتا ہے تو اس کا قصوروار کے ٹھہرایا جائے گا، استاد کو یا طالب علم کو؟ استاد کو صرف اس وجہ سے کہ استاد نے پیشگوئی کر دی تھی، اس لیے اسے طالب علم کی ناکامی کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پیشگوئی علم ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنھوں نے حق کو ٹھہرانے کا تہبیہ کر رکھا ہے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے، لہذا وہ غیر مسلم خود ایمان اور اللہ سے منہ موڑنے کے ذمہ دار ہیں۔

① اللہ تعالیٰ کی طرف گراہ کرنے یا دلوں پر مہر لگانے کی نسبت اس لیے درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیاء و رسول بھیج کر اور آسمانوں سے کتابیں نازل فرمایا کہ انسانوں کے لیے راہ حق واضح کر دی۔ اب جنھوں نے حق قبول کیا وہ ہدایت یافتہ اور کامیاب ٹھہرے اور جنھوں نے حق سے منہ موڑا اور انہیاء و رسول کو ستایا، اللہ نے انھیں گمراہی میں پڑا رہنے دیا اور حق کی توفیق نہ دی۔

## فہم و ادراک کا مرکز دل یاد ماغ؟

”قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری طرف سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فہم و ادراک اور ایمان لانا دماغ کا کام ہے، دل کا نہیں۔ تو کیا قرآن کا دعویٰ سائنس کے مقتضاد ہے؟“

قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ  
⑥ خَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غَشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ﴾ ⑦

”بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ انھیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہر حال وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔“ ①

① البقرة : 7,6/2

## قلب کا مفہوم سر

عربی زبان میں لفظ ”قلب“ کے معنی دل کے بھی ہیں اور ذہانت کے بھی۔ ان آیات میں جو لفظ قلب استعمال ہوا ہے، اس سے مراد دل بھی ہے اور ذہانت بھی، لہذا مذکورہ بالا آیات کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر مهر لگادی ہے اور وہ نہ تو بات کو سمجھ پائیں گے اور نہ ایمان لائیں گے۔

## فہم و ادراک کا مرکز سر

عربی زبان میں ”قلب“ سے فہم و ادراک کا مرکز بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور یہ فہم و ادراک کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

## انگریزی زبان کی مشایل سر

انگریزی زبان میں بھی متعدد الفاظ ہیں جو اپنے لغوی معنی سے ہٹ کر کسی اور مفہوم میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کی چند مشایل ملاحظہ ہوں:

”Lunatic“: قفر زدہ یا چاند کا مارا ہوا: لفظ Lunatic کا لغوی مطلب ہے چاند کا مارا ہوا یا چاند کی زد میں آیا ہوا۔ موجودہ دور میں لوگ اس لفظ کو ایک ایسے شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جو دیوانہ یا ہنی خلل کا شکار ہو۔ لوگ خوب جانتے ہیں کہ کوئی پاگل یا ہنی خلل میں بتلا آدی چاند کا ڈسا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود میڈیکل ڈاکٹر بھی یہی لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ زبان کے عمومی ارتقا کی ایک مثال ہے۔ ویسے ”لیونیک“، بمعنی ”دیوانہ“ کی اصطلاح اس باطل تصور کے تحت گھڑی گئی کہ چاند میں ہونے والی تبدیلیوں کا شدید اثر پڑتا ہے، چنانچہ

شعراء چاندنی سے عشق و دیوانگی کی کیفیت پیدا ہونے کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔

■ Disaster: ایک منحوس ستارہ: لفظ Disaster کا معنی و مطلب منحوس ستارہ ہے لیکن آج کل یہ لفظ اچانک نازل ہونے والی بد قسمتی یا آفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بد قسمتی کا کسی منحوس ستارے سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں۔

ستارہ کیا مری تقدیر کی خبر دے گا!

جو خود فراغی افالاک میں ہے خواروزبؤں

■ Trivial: تمین سڑکوں کا سُنگم: لفظ Trivial کا لغوی مطلب وہ مقام ہے جہاں تمیں سڑکیں ملتی ہوں۔ آج کل یہ لفظ کسی معمولی نوعیت کی یا بہت معمولی اہمیت کی حامل چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اگر کوئی چیز معمولی قدر و قیمت رکھتی ہو تو اسے تمین سڑکوں کے سُنگم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔

■ طلوع آفتاب (Sunrise) اور غروب آفتاب (Sunset): سن رائزن (Sunrise) کا لغوی مطلب ہے سورج کا چڑھنا۔ آج جب لفظ Sunrise باطلوع آفتاب کہا جاتا ہے تو لوگ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوتے کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ سورج کہیں چڑھنیں رہا ہوتا۔ اس کے باوجود ماہرین فلکیات بھی لفظ Sunrise ہی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ ”غروب آفتاب“ یا sunset کے وقت سورج کہیں غروب نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اصطلاح یہی استعمال ہوتی ہے۔

### محبت اور جذبات کا مرکز

انگریزی زبان میں محبت اور جذبات کا مرکز دل ہی کو کہا جاتا ہے اور دل سے مراد وہ

عضوِ بدن ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے۔ یہی لفظ دل کے خیالات، محبت اور جذبات کے منبع اور مرکز کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ خیالات، محبت اور جذبات کا مرکز دماغ ہے، اس کے باوجود جب کوئی شخص جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اکثر یہی کہتا ہے: ”میں تم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ تصور کیجیے! ایک سائنسدان جب اپنی الہیہ سے ان الفاظ میں اظہار محبت کرتا ہے تو کیا وہ یہ کہے گی کہ تمھیں سائنس کی اس بنیادی حقیقت کا علم بھی نہیں کہ جذبات کا مرکز دماغ ہے، دل نہیں؟ کیا وہ اسے یہ مشورہ دے گی کہ تمھیں کہنا چاہیے کہ میں تم سے اپنے دماغ کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں؟ لیکن وہ ایسا نہیں کہتی بلکہ خاوند کے دل کی گہرائیوں سے محبت کے دعوے کو تسلیم کرتی ہے۔ لفظ قلب، مرکز خیالات و ادراف کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔

کوئی عرب کبھی یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر کیوں مہر لگائی ہے کیونکہ اسے بخوبی علم ہے کہ اس سیاق و سبق میں اس سے مراد انسان کا مرکز خیالات و جذبات ہے۔

جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کے لیے کیا؟

”قرآن کریم کے مطابق کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اسے حور، یعنی خوبصورت دو شیزہ دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی عورت جنت میں جائے گی تو اسے کیا دیا جائے گا؟“

لفظ حور قرآن کریم میں کم از کم چار مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے۔

﴿كَذَلِكَ وَزَوْجَنَهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ﴾ (۵۴)

”یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔“<sup>①</sup>

﴿وَزَوْجَنَهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ﴾ (۲۰)

”اور ہم ان کا نکاح بڑی اور روشن آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔“<sup>②</sup>

﴿حُورٌ مَّفْصُورَاتٌ فِي الْحَيَامِ﴾ (۷)

”خیموں میں ٹھہرائی گئی حوریں۔“<sup>③</sup>

﴿وَحُورٌ عَيْنٌ﴾ (۲۲) ﴿كَأَمْثَالِ الْلَّؤلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ (۲۳)

”اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوگی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔“<sup>①</sup>

### حور کا مطلب

قرآن کریم کے بہت سے مترجمین نے لفظ حور کا ترجمہ خصوصاً اردو تراجم میں خوبصورت دو شیواں میں یا لڑکیاں کیا ہے۔ اس صورت میں وہ صرف مردوں کے لیے ہوں گی۔ تب جنت میں جانے والی عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟

لفظ ”حُور“ فی الواقع آنحُور (مردوں کے لیے قابل اطلاق) اور حَوْرَاء (عورتوں کے لیے قابل اطلاق) دونوں کا صبغہ بُجُع ہے اور یہ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی آنکھیں حَوَرٌ سے متصف ہوں، جو جنت میں جانے والے مردوں اور خواتین کی صالح ارواح کو بخشی جانے والی خصوصی صفت ہے اور یہ روحانی آنکھ کے سفید حصے کی انتہائی اجلی رنگت کو ظاہر کرتی ہے۔

دوسرا کئی آیات میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں تمہارے ازواج، یعنی جوڑے ہوں گے۔ اور تمھیں تمہارا جوڑا ایسا پاکیزہ ساتھی عطا کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا نَهَرٌ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلٍ وَأَتُوْا بِهِ مُتَشَبِّهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ۲۵ ﴾

”اور (اے پیغمبر!) جو لوگ اس کتاب پر ایمان لا سکیں اور نیک عمل کریں، انھیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔

جب بھی ان میں سے کوئی پھل انھیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دنیا میں دیا جاتا تھا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔<sup>①</sup>

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَمَرِّي مِنْ تَمَرِّنَهَا الْأَنَهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظَلَالًا ظَلِيلًا﴾<sup>⑤</sup>

”اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں میں گی اور انھیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔<sup>②</sup>

اہذا القلط ”حور“، کسی خاص جنس یا صنف کے لیے مخصوص نہیں۔ علامہ محمد اسد نے لفظ حور کا ترجمہ خاوند یا بیوی (Spouse) کیا ہے جبکہ علامہ عبد اللہ یوسف علی نے اس کا ترجمہ ساتھی (Companion) کیا ہے، چنانچہ بعض علماء کے نزدیک جنت میں کسی مرد کو جو حور ملے گی وہ ایک بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں والی خوبصورت دو شیزہ ہوگی جبکہ جنت میں داخل ہونے والی عورت کو جو ساتھی ملے گا وہ بھی بڑی بڑی روشن آنکھوں والا ہوگا۔

### عورتوں کے لیے خصوصی اقسام

بہت سے علماء کا خیال ہے کہ قرآن میں جو لفظ ”حور“ استعمال ہوا ہے اس سے مراد صرف خواتین ہیں کیونکہ اس کے بارے میں خطاب مردوں سے کیا گیا ہے۔ اس کا وہ جواب جو سب قسم کے لوگوں کے لیے لازماً قابل قبول ہو، حدیث مبارک میں دیا گیا ہے۔ جب نبی کریم ﷺ سے ایسا ہی سوال کیا گیا کہ اگر مرد کو جنت میں ایک خوبصورت

دوشیزہ، یعنی حور دی جائے گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو جواب میں ارشاد ہوا کہ عورتوں کو وہ چیز ملے گی جس کی ان کے دل نے کبھی خواہش کی ہوگی نہ ان کے کانوں نے کبھی اس کا ذکر سننا ہوگا اور نہ ان کی آنکھوں نے کبھی اسے دیکھا ہوگا۔ گویا عورتوں کو جنت میں کوئی خاص شے عطا کی جائے گی۔ ①

② یہ سوال کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس ضمن میں موصوف ڈاکٹر ذاکر صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے وہ اس سیاق سے ہمیں اصل مراجع سے نہیں مل سکی۔ صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَثَ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَثُ، وَلَا خَطَرٌ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے ان کی آنکھوں نے دیکھا ہے نہ ان کے کانوں نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔“ (صحیح البخاری ، التفسیر ، حدیث: 479) حدیث کے لفظ عباد میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، البتہ اس سلسلے میں شیخ ناصر الدین الابانی رض نے سلمہ ص میں ایک حدیث نقل کی ہے: ”الْمَرْأَةُ لَا يَجِدُ أَزْوَاجَهَا“ (جنت میں) عورت (دنیا کے لحاظ سے) آخری خاوند کے ساتھ ہو گی۔“ (الصحیحة، حدیث: 1281) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں شادی شدہ عورت جنت میں بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہو گی، البتہ جن کی شادی نہ ہوئی یا جن کے خاوند کا فرر ہے، ان کو جنت میں مردوں کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا۔ (ویکھیے: تفسیر روح المعانی: 14/207)

## ابليس: فرشتہ یا جن؟

”قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کہا گیا ہے کہ ابليس ایک فرشتہ تھا لیکن سورہ کھف میں فرمایا گیا ہے کہ ابليس ایک جن تھا۔ کیا یہ بات قرآن میں تقضاد کو ظاہر نہیں کرتی؟“

قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آدم و ابليس کا تقصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس﴾

”ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابليس کے۔“<sup>①</sup>

اس بات کا تذکرہ حسب ذیل آیات میں بھی کیا گیا ہے:

■ سورہ اعراف کی آیت: 11

■ سورہ حجر کی آیات: 31-28

■ سورہ بنی اسرائیل کی آیت: 61

﴿سُورَةُ طَهٖ﴾ کی آیت: 116:

﴿سُورَةُ حِسَّ﴾ کی آیت: 74-71:

لیکن 18 ویں سورہ الکھف کی آیت: 50 کہتی ہے:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجُدُوا لِلَّادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾

”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا: آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا۔ پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔“<sup>①</sup>

### تقلیل کا کلیمہ

سورۃ البقرہ کی مذکورہ بالا آیت کے پہلے حصے سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ عربی گرامر میں ایک کلمیہ تغییب کے نام سے معروف ہے جس کے مطابق اگر اکثریت سے خطاب کیا جا رہا ہو تو اقلیت بھی خود بخود اس میں شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں 100 طالب علموں پر مشتمل ایک ایسی کلاس سے خطاب کر رہا ہوں جس میں لڑکوں کی تعداد 99 ہے اور لڑکی صرف ایک ہے، اور میں عربی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ سب لڑکے کھڑے ہو جائیں تو اس کا اطلاق لڑکی پر بھی ہو گا۔ مجھے الگ طور پر اس سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہو گی۔

اسی طرح قرآن کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کیا تو ابلیس بھی وہاں موجود تھا، تاہم اس امر کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کا ذکر الگ سے کیا جاتا، لہذا سورۃ بقرہ اور دیگر سورتوں کی عبارت کے مطابق ابلیس فرشتہ ہو یا نہ ہو لیکن 18 ویں سورہ الکھف کی پچھاؤں میں

<sup>①</sup> الکھف : 50/18

آیت کے مطابق ابليس ایک جن تھا۔ قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ابليس ایک فرشتہ تھا۔ سو قرآن کریم میں اس حوالے سے کوئی تضاد نہیں۔

### ارادہ و اختیار جنوں کو ملا، فرشتوں کو نہیں سُر

اس سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ جنوں کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے اور وہ چاہیں تو اطاعت سے انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کو ارادہ و اختیار نہیں دیا گیا اور وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت بجالاتے ہیں، لہذا اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے۔ اس حقیقت سے اس بات کی مزید تائید ہوتی ہے کہ ابليس ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔

WWW. DEENEKHALIS.COM

WWW. RAHEHAQ.COM

WWW. ESNIPS.COM/USER/TRUEMASLAK

صلوٰۃ کی سمجھی نویمات کے فروع میں دارالسلام کا  
ساقہ د تجھئے۔ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ  
لوگوں تک خرید کر دینا چاہئے۔

## کیا مریم علیہ السلام کی بہن تھیں؟

”آپ کے قرآن میں یہ ذکر آیا ہے کہ مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بہن تھی۔ حضرت محمد ﷺ جنہوں نے قرآن تصنیف کیا (نعوذ بالله) یہ نہیں جانتے تھے کہ ہارون علیہ السلام کی بہن مریم، یسوع مسیح علیہ السلام کی والدہ میری (Mary) سے مختلف خاتون ہیں اور دونوں میں تقریباً ایک ہزار سال کا وقفہ ہے؟“

قرآن کریم کی سورہ مریم میں فرمایا گیا ہے:

﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلِهُ فَالْأُولَاءِ يَمْرِيمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ ۲۷ ۲۸ ﴿ يَنْأَخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغْيَّا ﴾

”پھر وہ اس (بچے) کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگے: اے مریم! یقیناً تو نے بہت بُرا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بد کا تھی۔“<sup>①</sup>

عیسائی مشتری کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو یسوع مسیح علیہ السلام کی والدہ میری یا مریم اور ہارون علیہ السلام کی بہن مریم میں فرق معلوم نہیں تھا، حالانکہ دونوں کے درمیان ایک ہزار برس کا

بعد زمانی ہے۔ لیکن انھیں شاید علم نہیں کہ عربی زبان کے جملے کی ساخت میں بہن کے معانی آل اولاد بھی ہیں، لہذا لوگوں نے مریم سے کہا: اے ہارون کی اولاد! اور فی الواقع اس سے ہارون علیہ السلام کی اولاد ہی مراد ہے۔

### بیٹی کا مطلب اولاد ہے سر

بابل میں لفظ ”بیٹا“ بھی اولاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ متی کی انجیل کے باب اول کے فقرہ نمبر 1 میں ہے:

”یسوع مسح، داؤ د کا بیٹا“<sup>①</sup>

لوقا کی انجیل کے باب نمبر 3 کے فقرہ نمبر 23 میں لکھا ہے:

”جب یسوع خود تعلیم دینے لگا، قریباً تمیں برس کا تھا، اور (جیسا کہ سمجھا جاتا تھا)

یوسف کا بیٹا تھا۔“<sup>②</sup>

### کیا سمح علیہ السلام کے دو بیپ تھے؟ سر

ایک شخص کے دو والد نہیں ہو سکتے، لہذا جب یہ کہا جائے کہ ”یسوع مسح علیہ السلام، داؤ د علیہ السلام کا بیٹا تھا“ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ مسح علیہ السلام، داؤ د علیہ السلام کی آل میں سے تھے۔ بیٹا (Son) سے یہاں مراد جانشین یا اولاد ہے۔

بخاری میں قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 28 پر اعتراض بے بنیاد ہے کیونکہ اس میں مذکور ”اُخت ہارون“ سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن مریم نہیں بلکہ اس سے مراد مریم والدہ مسح ہیں جو ہارون علیہ السلام کی اولاد، یعنی ان کی نسل میں سے تھیں۔

① متی: 1/1

② لوقا: 3/23 یوسف سے مراد یوسف نجاح ہے جو سماجی عقیدے کے مطابق حضرت مریم کا شوہر تھا۔

## کیا ”روح اللہ“ سے الوہیت مسیح کشید کی جاسکتی ہے؟

”کیا قرآن کریم یہ بیان نہیں کرتا کہ یسوع مسیح کلمہ اللہ (اللہ کا کلمہ) ہیں اور روح اللہ (اللہ کی روح) بھی۔ کیا اس سے شان الوہیت ظاہر نہیں ہوتی؟“

قرآن مجید کی رو سے مسیح علیہ السلام کی جانب سے ایک کلمہ ہیں اللہ کا کلمہ نہیں، چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں کہا گیا ہے:

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَنْرِيمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكُ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ أَسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرِيمٍ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُفَرِّيَنَ ﴾ ④﴾

”(یاد کرو) جب فرشتوں نے کہا: اے مریم! بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔“<sup>①</sup>

گویا قرآن میں مسیح علیہ السلام کا ذکر ”اللہ کی جانب سے ایک کلمہ“ کے طور پر کیا گیا ہے نہ کہ ”اللہ کے کلمہ“ کے طور پر۔ اللہ کے ایک کلمے سے مراد اللہ کا پیغام ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ کی جانب سے ایک کلمہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اللہ کا پیغمبر اور نبی ہے۔

## انبیاء کے القاب

مختلف انبیائے کرام کو مختلف القاب دیے گئے ہیں۔ جب کسی پیغمبر کو کوئی لقب دیا جاتا ہے تو اس کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے پیغمبر وہ خصوصیت یا خوبی نہیں رکھتے، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ تمام دوسرے پیغمبر اللہ کے دوست نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ اس سے بھی یہ مراد نہیں کہ اللہ نے دوسرے انبیاء سے بات نہیں کی، اسی طرح مسح علیہ السلام کا بطور کلمہ من اللہ، یعنی ”اللہ کی طرف سے ایک کلمہ“ ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے انبیاء اللہ کی طرف سے ایک کلمہ یا پیغام بر نہیں ہیں۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام جنہیں عیسائی یوحنا صばغ (John The Baptist) کہتے ہیں، ان کے ذکر میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ من اللہ، یعنی ”اللہ کی طرف سے ایک کلمہ“ کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ دُرِيَّةً طِينَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (۲) فَنَادَهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَالِيمٌ يُصَلَّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحِيَيِّ مُصَدِّقًا بِكَلْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّلَاحِينَ (۳) ﴿

”وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی: میرے رب! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے، پھر جب وہ جھرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اسے آواز دی: بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کے ایک کلمے (عیسیٰ) کی توثیق کرے گا، اور سردار، نفس پر ضبط رکھنے والا اور

نیکو کار نبی ہو گا۔“<sup>①</sup>

## سُجُّونٌ كَذِكْرِ الْبَطْرُورِ رُوحٌ مِّنَ اللَّهِ

قرآن میں سُجُّونٌ کا ذکر بطور روح اللہ کے نہیں کیا گیا بلکہ سورہ نساء میں روح من اللہ، یعنی ”اللہ کی جانب سے ایک روح“ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُبُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ<sup>۱</sup>  
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَقْرَنَهَا إِلَى مَرْيَمَ  
وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ أَنْتُهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا<sup>۲</sup>  
اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَكُفَّنَ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾<sup>۳</sup>

”اے اہل کتاب! دین کے بارے میں حد سے نہ گز رجاو اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے، چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاو اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز آجائو یہ تمھارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی معبود واحد ہے، وہ اس (امر) سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اللہ بطور کار ساز کافی ہے۔“<sup>۴</sup>

① آل عمران: 39, 38/3

② النساء: 171/4

کیا ”روح اللہ“ سے الوہیت مسح کشید کی جاسکتی ہے؟

## اللہ کی روح ہر انسان میں پھونگی گئی ہے

اللہ کی طرف سے روح پھونکے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (نعوذ بالله) معبود ہیں۔ قرآن متعدد مقامات پر بیان کرتا ہے کہ اللہ انسانوں میں ”اپنی روح سے“ پھونکتا ہے۔ مثلاً:

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ﴾ ۲۹ ﴿

”پھر جب میں اسے (آدم کو) درست کرلوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے گر پڑنا۔“ ①

﴿ثُمَّ سَوَّيْهُ وَنَفَخْ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَقْدَةَ قِلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾ ۹ ﴿

”پھر انسان (کے اعضاء) کو درست کیا اور اس میں اپنی روح سے پھونکا، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم کم ہی شکر کرتے ہو۔“ ②

## کیا مسح علیہما فوت ہو گئے ہیں؟

”کیا یہ بات درست نہیں کہ آپ کا قرآن سورہ مریم (آیت: 33) میں ذکر کرتا ہے کہ یسوع مسح علیہما انتقال کر گئے اور پھر زندہ کیے گئے اور اٹھائے گئے تھے؟“

قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہما انتقال کر گئے بلکہ ان کا قول صیغہ مستقبل میں ہے۔ سورہ مریم میں عیسیٰ علیہما کی بابت ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے کہا:

﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمِ الْمِلْدُثِ وَيَوْمِ الْمُؤْمَثِ وَيَوْمَ أُبَعْثَرُ حَيَاً﴾ (۳۳)

”اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مر جاؤں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔“<sup>①</sup>

قرآن کا بیان یہ ہے کہ مسح علیہما نے کہا: سلام ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مر جاؤں گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جس روز میں فوت ہوا۔ یہ بات مستقبل کے صیغہ میں کہی گئی ہے، صیغہ ماضی میں نہیں۔

## مسیح علیہ السلام اٹھا کر گئے

قرآن کریم سورہ نساء میں مزید بتاتا ہے:

﴿وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَّا لَنَا مَسِيحًا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ  
وَلَكِنْ شُيَّهُهُمْ وَلَمَّا كَانَ الَّذِينَ أَخْلَفُوا فِيهِ لَنَفِ شَكٌ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا اِبْيَاعَ  
الظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴾ ۱۷) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۱۸)

”اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے (ہم نے ان پر لعنت کی) کہ ”ہم نے مسیح ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا“ حالانکہ انہوں نے نہ انھیں قتل کیا اور نہ انھیں سولی پر چڑھایا بلکہ انھیں شہیت میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں۔ انھیں ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انھیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انھیں اپنی طرف اٹھایا، اور اللہ بڑا ذریعہ برداشت، بہت حکمت والا ہے۔“<sup>①</sup>

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی گھناؤنی سازش سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھایا تھا۔ قیامت کے قریب زمین پر ان کا نزول ہوگا اور فتنہ دجال کے ختم ہونے اور تمام روئے زمین پر اللہ کے دین اسلام کے فروع کے بعد عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر جائیں گے۔

برائے ہر بانی یہ کہ بے خرید کر زیادہ سے زیادہ نور اور میں  
در درود تک پہنچا یعنی - حسک اللہ

# راہ حق سیریز

مسلمانوں کی عملی زندگی میں مسنون انقلاب برپا کرنے والی کتب کا دعویٰ، مستند اور جامع سیٹ

- \* ترجمہ و تفسیر تیسواں پارہ
- \* تجلیات نبوت
- \* اركان اسلام و ایمان
- \* مسنون نماز اور روزمرہ کی دعائیں
- \* اسلام کے احکام و آداب
- \* فکر و عقیدہ کی گمراہیاں اور صراطِ مستقیم کے تقاضے
- \* اسلامی آداب معاشرت
- \* حقوق و فرائض
- \* انسان..... اپنی صفات کے آئینے میں
- \* دعویٰ حق کے تقاضے
- \* لباس اور پروردہ



# تلاشِ حق سبیریز

تلاشِ حق میں سرگردان لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے  
انہائی مستند، جامع اور دل پذیر کتابوں کا سیٹ، اردو میں پہلی بار

\* توحید اور ہم

\* رحمت و عالم

\* قرآن کی عظمتیں اور اس کے مجازے

\* اسلام کی انتیازی خوبیاں

\* اسلام کے بنیادی عقائد

\* اسلام میں بنیادی حقوق

\* اسلام کی سچائی اور سائنس کے اعتراضات

\* اسلام پر 40 اعتراضات کے عقلی و فلسفی جواب

\* اسلام ہی ہمارا انتخاب کیوں؟

\* میں توبہ تو کرتا چاہتا ہوں لیکن!

\* جنت میں داخلہ، دوزخ سے نجات



قرآن نازل ہوا تو اُس نے یہود و نصاریٰ پر آشکار کیا کہ تمھاری بھلائی کے لیے جو دین دیا گیا تھا، وہ تم نے اپنی ملاوٹی باتوں کے ڈھیر میں گم کر دیا، اب تمھاری جھوٹی خالی ہے۔ لیکن ما یوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب رب العزت نے اسلام کی راہ روشن کر دی ہے۔ پس تم اسلام کے سایہ رحمت میں آ جاؤ۔

فی زمانہ اسلام کی تبلیغ و توجہانی کی عزت جن علمائے حق کے حصے میں آئی ہے، ان میں بھارت کے نامور سکالر ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائیک کی شخصیت بہت نمایاں ہے۔ چاند پر خاک ڈالنے کی کوشش کی جائے تو وہ اپنے ہی منہ پر آ گرتی ہے۔ غیر مسلموں نے اسلام پر اعتراضات کی بوجھاڑ کی۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کے مدلل اور مسکت جوابات دیے ہیں اور انھیں اسی راہ پر چلنے کی دعوت دی ہے جس کی طرف قرآن کریم 14 صدیوں سے بلارہا ہے۔  
دارالسلام سوال و جواب کا یہ ہے مثلاً مجموعہ دنیا بھر میں اسلام کی حقانیت عام کرنے کے لیے شائع کر رہا ہے۔ یہ کتاب خود بھی پڑھیے اور اسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں غیر مسلموں تک بھی پہنچائیے۔ یہ کتاب پڑھ کر اگر ایک غیر مسلم کے قدم بھی اسلام کی راہ پر لگ گئے تو یہی نہما اعمل آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔

## دارالسلام

کتاب دشت کی اشاعت کا عالمی ادارہ

رباط • جدہ • شارجه • لاهور • کراچی  
اسلام آباد • لندن • ہیومن • نیو یارک

